

XIAOMI Smart Air Fryer 6.5L User Manual · 1

Manual de usuario de la Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L · 11

Xiaomi Smart Heißluft-Fritteuse 6,5 l Bedienungsanleitung · 22

Manuale utente Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L · 33

Manuel d'utilisation de Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L · 44

Руководство пользователя аэрогриля Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L · 55

Manual do utilizador da Fritadeira Inteligente a Ar Xiaomi 6,5L · 66

Instrukcja obsługi Wielofunkcyjna frytkownica Xiaomi Smart Air Fryer 6,5 l · 77

Xiaomi Akıllı Hava Fritözü 6,5L Kullanım Kılavuzu · 88

Nồi chiên không dầu thông minh Xiaomi 6,5L Hướng dẫn sử dụng · 99

Xiaomi Smart Airfryer 6,5L Gebruikershandleiding · 110

دليل مستخدم مقلاة Xiaomi الهوائية الذكية 6.5 لتر · 121



Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Thank you for choosing Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L. This product is for household use only. Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Safety Instructions


- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Please keep the air fryer and the power cord out of the reach of children aged under 8.
- For household use only.
- If the power cord is damaged or broken, it must be replaced by the manufacturer or after-sales service department to avoid safety hazards.
- The temperature of the accessible surface may rise while the air fryer is working.
- The surface will heat up easily while the air fryer is in use.
- The air fryer should not be operated via an external timer or a separate remote control.
- Do not block the air fryer's air inlet and outlet, nor the heat dissipation vents during use to avoid affecting its normal heat dissipation.
- Any non-professionally trained technicians should not modify the internal wiring of the air fryer.
- Do not use charcoal or other similar fuel sources to heat the basket, frying plate, or grill.
- Do not place the basket on any other heat sources, such as an induction cooker or gas stove.
- Do not plug or unplug the power cord with wet hands to avoid the risk of an electrical shock.
- Do not use a power cord with loose connection or poor contact.
- Do not let the power cord cross through sharp objects to avoid damage to the power cord.
- Do not use the air fryer to store any items, especially flammable, explosive, or corrosive items.

- Do not excessively pinch, bend, twist, or place heavy objects on the power cord to prevent from exposing or breaking its core.
- Stop using the air fryer immediately and unplug it from the power source if it doesn't function normally or malfunctions.
- The air fryer cannot be started without the basket being in place.
- Do not touch the basket directly with your hands during or right after use to avoid getting scalded.
- Do not allow children to get close to or play with the cling wrap and packaging to avoid suffocation accidents.
- Do not use any plastic utensils or normal paper wrapping materials to wrap food for cooking.
- Do not drop this air fryer or bump it against hard objects to avoid damage or malfunction.
- Do not insert pins, wires or other objects into any of the openings of the air fryer to avoid an electrical shock or injury.
- Do not use any accessories that are not recommended by the manufacturer.
- The normal operating altitude range of this product is 0–2000 meters.
- Keep a distance of 30 cm or more between the air outlet and other devices during use.
- Do not move or shake the air fryer during use.
- Do not insert any foreign objects into the safety switch to avoid causing any danger.
- When placing the air fryer in a kitchen cabinet, etc., please ensure that it is well ventilated.
- Please be sure to unplug the air fryer before cleaning or repairing it.
- This product must be used on a level, heat-resistant surface to avoid damage to the product or accidents.
- Ensure that the silicone parts of the air fryer do not come into contact with ethanol or solutions that contain more than 50% of alcohol.
- Please ensure that the electrical outlet the air fryer is plugged into is well grounded to avoid an electrical shock or other safety hazards.



CAUTION: Hot surfaces.

Product Overview



Notes: 1. The silicone rubber on the frying plate is made of high temperature resistant food-grade materials to prevent the edges of the frying plate from scratching the coating of the basket and to improve the stability of the frying plate. Do not remove the silicone rubber from the frying plate.
2. Ingredients that are too small are not suitable for use on the grill. Please make sure that ingredients don't fall through the gaps in the grill.

Control Knob



1 Press to confirm selection.



2 Press and hold for 1 second to return to the previous menu.



3 Turn left/right to change functions.



4 Press the power button to turn on/off.

How to Use

Connect the power cord and press the power button to turn on the air fryer.

Notes: 1. When the air fryer is turned on for the first time, press the power button and go to the language selection screen, turn the control knob to the desired language, then press the control knob to confirm the selection.
2. The air fryer may give off a minor odor on first use. It is recommended to run the air fryer with an empty basket at the maximum temperature (220°C) for five minutes to remove the odor. The air fryer may emit a small amount of white smoke or an odor while running with an empty basket, which is normal.

Turning on

Connect the power cord and press the power button to turn on the air fryer.

Turning off





Press the power button to turn off the air fryer, regardless of the state it is in.



Configuring the Wi-Fi

- **Resetting the Wi-Fi:**
Press the control knob to enter "Reset Wi-Fi" while in the "Wi-Fi" screen, then press the control knob to select Yes to reset the Wi-Fi, or turn the control knob to select No to abandon resetting the Wi-Fi.
- **Enabling/Disabling the Wi-Fi:**
Press the control knob to enter "Enable/Disable Wi-Fi?" while in the "Wi-Fi" screen, then press the control knob to select Yes to enable or disable the Wi-Fi, or turn the control knob to select No to abandon the change.

Wi-Fi Status Indicator

			
Awaiting fast connection...	Reconnecting after a disconnection...	Connected successfully	Updating...
Wi-Fi indicator blinks slowly	Wi-Fi indicator blinks quickly	Wi-Fi indicator stays on	Wi-Fi indicator blinks quickly

Note: If the air fryer does not connect to the Wi-Fi for 30 minutes, the Wi-Fi indicator will turn off.

Firmware update

When you update the firmware through the Mi Home/Xiaomi Home app, the display will show that an update is in progress, and the air fryer will automatically restart when the update is completed.

Note: The Mi Home/Xiaomi Home app will be able to update the firmware unless the air fryer or its display is turned off, or the Wi-Fi is disconnected. Other operations cannot be performed when the firmware update is in progress.

Connecting with the Mi Home/Xiaomi Home App

This product works with the Mi Home/Xiaomi Home app*. Control your device with Mi Home/Xiaomi Home app.



67CE8213

- Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search for "Mi Home/Xiaomi Home" in the app store to download and install it.
- Open the Mi Home/Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow the instructions to add your device.

* The app is referred to as Xiaomi Home app in Europe (except for Russia). The name of the app displayed on your device should be taken as the default.

Note: The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

Cooking

Preparations

The ingredients can be marinated to taste before cooking.

Starting a cooking program

1. Place the air fryer on a stable, level surface and ensure that there is air circulation around the air fryer.

2. Place the frying plate into the basket and add ingredients one by one. If there are more ingredients, use the grill to place them in layers.

Note: Layering ingredients without using the grill will affect the cooking.

3. When the basket is completely pushed into the air fryer, turn and press the control knob to select the manual mode or the preset recipe (yogurt, chicken wings, fries, etc.), turn and press the control knob to set the mode (crispy grill/defat, supported by certain recipes), quantity of ingredients (single layer/double layer), temperature and time, and press the control knob to start the cooking program and the cooking time countdown. For a scheduled cooking program, the air fryer will automatically start cooking at a proper time to ensure that the cooking is completed at the scheduled time.

Notes:

1. The cooking time and temperature can be adjusted by turning the control knob during cooking, except for cooking yogurt. When cooking in the defat mode, you can only adjust the cooking time, not the cooking temperature.

2. Once you turn the control knob to adjust the cooking time or temperature, you need to press the control knob to confirm, otherwise the air fryer will continue to cook as per the original settings after five seconds.

3. You cannot change the recipe while cooking.

4. Ingredients do not need to be turned over during cooking (unless you are cooking fries). When you have selected over 500 g of fries, there will be a prompt to turn over the ingredients halfway. Follow the prompt to pull out the basket to turn over the ingredients, then place the basket completely back into the air fryer and press the control knob to continue cooking.

5. The air fryer will beep and "Completed" will appear on the display to indicate that the cooking program has been completed (for some recipes, the air fryer will enter the keeping warm state and display "Keeping warm..."). Carefully take out the basket and use clamps to remove the food.

CAUTION: When cooking is completed, the basket is very hot, so do not touch it to avoid getting scalded.

Other Operations

1. Language settings

- Turn on the air fryer, go to settings, and press the control knob to enter the language selection screen.
- Turn the control knob to the desired language and press it to confirm.

2. Manual mode

- When the air fryer is turned on, press the control knob to enter the manual mode, then turn the control knob to the desired cooking temperature, press the control knob to set the time and turn the control knob to the desired cooking time, and finally press the control knob to start the manual cooking program.

3. Temperature/Time adjustment

- The temperature can be adjusted between 40°C and 220°C. The time can be adjusted between 0–24 hours.
- When adjusting the cooking time or scheduled completion time, pay attention to the speed in which you turn the control knob. When the adjusted time range is ≥ 60 minutes, turning the control knob quickly will adjust the time by 60 minutes, while turning the control knob slowly will adjust the time by 1 minute. When the adjusted time range is < 60 minutes, turning the control knob quickly will adjust the time by 10 minutes, while turning the control knob slowly will adjust the time by 1 minute.
- The cooking temperature is adjusted by 5°C for each turn of the control knob.
- If you adjust or modify the time parameters in recipe cooking program, when the cooking temperature is between 80°C and 220°C, the adjustable cooking time is ≤ 1 hour; when the cooking temperature is $< 80^\circ\text{C}$, the adjustable cooking time is ≤ 24 hours.

4. Scheduled cooking

- Press the control knob to select the schedule function, turn the control knob to select the scheduled recipe, then set the cooking time and scheduled time. The air fryer will automatically start cooking at a proper time to ensure that the cooking is completed at the scheduled time, then enter the keeping warm state or finish cooking once done.

Notes:

1. The scheduled time must be longer than the cooking time, but less than 24 hours.
2. The scheduled time here is the scheduled completion time. For example, when the screen displays 02:40, it means that cooking will complete within 2 hours and 40 minutes.
3. The schedule function is not supported in yogurt, dried fruit, and defrost modes.

5. Keeping warm function

- The keeping warm function is enabled by default. You can disable it in the settings.
- The keeping warm time is 30 minutes, while the keeping warm temperature is 80°C. Keeping warm and its timing will be suspended if the basket is pulled out. If you place the basket back in within 3 minutes, keeping warm will continue at the retained time settings. If the basket is not placed back within 3 minutes, keeping warm will end, and the air fryer will return to the home screen of the corresponding recipe.

CAUTION: When keeping warm is on and the cooking temperature is set to $\geq 80^{\circ}\text{C}$, the keeping warm operation will be performed after the cooking is completed. Otherwise, the air fryer will directly finish cooking by entering the cooking completed screen.

6. Pause/Cancel cooking

- When the air fryer is in cooking mode, press the control knob to pause cooking. When the air fryer is cooking or paused, press and hold the control knob for one second to enter the canceling cooking screen. Select Yes to cancel cooking and enter the manual mode screen.

CAUTION: During cooking, you can turn the control knob to adjust the temperature and time parameters. The corresponding numbers will blink during adjustment. Once adjustment is completed, press the control knob to confirm the new parameters.

7. Cloud recipe mode

- If you select and execute a cloud recipe with the Mi Home/Xiaomi Home app, the air fryer will cook automatically according to the recipe. After cooking, the air fryer will enter the manual mode screen.

Notes: 1. When executing cloud recipes, you can select the schedule function.

2. You cannot execute cloud recipes in the following situations:

- 1) The air fryer or its display is turned off.
- 2) There is no Wi-Fi connection.
- 3) The air fryer is cooking, keeping warm, or in scheduled mode.
- 4) The basket has been pulled out.

8. Error message

- When the air fryer detects an error, the display will show "E1" or "E2", and the air fryer will emit three brief beeps.

Cleaning & Maintenance

Unplug the power cord before cleaning and maintaining the air fryer, and wait for it to cool down to a safe temperature before proceeding. Please remove the basket from the air fryer when cleaning the air fryer.

Air fryer surface:

The surface of the air fryer can be wiped with a dry, soft cloth or a sponge moistened with a neutral cleaning detergent.

Cavity:

To remove stains from the inside of the air fryer, apply a suitable amount of detergent diluted in hot water to its surface and let it sit for about ten minutes, then use a soft sponge moistened with water to wipe away the detergent residue.

Basket:

Clean the air fryer after each use. The basket of the air fryer is coated, so do not use any steel wool or other abrasive cleaning materials to clean it as they may damage the coating.

Frying plate and grill:

You can use a soft, cotton cloth or sponge moistened with neutral detergent to wipe it clean, then moisten it with water to wipe away the detergent residue.

Note: The frying plate and grill can be separated and placed in the dishwasher for cleaning; the basket can be washed in water, and can be cleaned in dishwasher; however, the air fryer can neither be washed in water nor be cleaned in dishwasher.

Cleaning Precautions

1. After using the air fryer, please unplug the power plug in time and do not place the air fryer near a source of fire nor immerse it in water. Do not place the power plug directly on the air fryer to prevent the plug from scratching its surface.
2. Cleaning and maintenance should only be done after the air fryer has cooled down.
3. Do not use any corrosive or abrasive cleaning materials or detergents.

Note: Regular cleaning and maintenance of the air fryer will help extend its service life.

Maintenance Tips


- Only professionally trained and qualified technicians should repair the air fryer.
- Others should not repair the air fryer without permission to avoid serious consequences.
- When the air fryer is acting abnormally, please refer to Troubleshooting before contacting the after-sales service team.
- If the issue cannot be resolved, please unplug the power cord and disconnect it and contact after-sales service team.

Troubleshooting

Issue	Possible Causes	Solutions
The air fryer doesn't function.	The air fryer is not connected to a power supply.	Plug the power cord into a grounded electrical outlet.
	The basket is not pushed into place.	Pull out the basket and push it back into place.
Display shows E1.	The sensor has a broken circuit.	Contact the after-sales service team.
Display shows E2.	The sensor has a short circuit.	Contact the after-sales service team.
The fan doesn't rotate.	The fan blade is stuck.	Contact the after-sales service team.
	The motor is damaged or other components have a broken circuit.	Contact the after-sales service team.
White smoke is coming out.	Cooking oily ingredients.	When you fry ingredients containing more fat, there will be a lot of smoke, which is normal.
	The air fryer still contains grease residue from the previous cooking program.	Ensure that you clean the air fryer after each cooking program.
Can't insert the basket into the air fryer smoothly.	Too many ingredients in the basket.	The ingredients in the basket can't exceed the maximum mark.
	The basket is not properly inserted.	Properly insert the basket.
The schedule function doesn't function as requested.	The scheduled time is too short.	The scheduled time should be longer than the cooking time.
	The scheduled time is not saved.	The scheduled time should be saved and carried out by pressing the control knob.
Wi-Fi can't be connected.	The Mi Home/Xiaomi Home app is not the latest version.	Update the Mi Home/Xiaomi Home app to the latest version.
	The Wi-Fi signal is weak.	Move to a location where the signal is strong enough.
Unable to connect the air fryer.	Wi-Fi cannot be connected.	Check whether the Wi-Fi is connected normally or reset the Wi-Fi to reconnect.

Electrical Diagram

- ① LCD Display
- ② Safety Switch
- ③ Control Panel
- ④ Heating Element
- ⑤ Fuse
- ⑥ Motor
- ⑦ Fuse
- ⑧ Power Board



Specifications

Name: Oven (Air Fryer)	Capacity: 6.5 L	Color: Black
Model: MAF10	Rated Frequency: 50–60 Hz	Net Weight: 5.4 kg
Rated Power: 1800 W	Rated Voltage: 220–240 V~	Gross Weight: 6.5 kg
Maximum Output Power: < 20 dBm	Package Dimensions: 425 × 330 × 355 mm	
Operating Temperature: -10°C to 40°C	Operating Frequency: 2412–2472 MHz	
Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz		

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

CE Hereby, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. declares that the radio equipment type Oven (Air Fryer) MAF10 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/service/userguide



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
 Manufactured by: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
 (a Mi Ecosystem company)
 Address: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
 Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
 For further information, please go to www.mi.com

User Manual Version: V1.0

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas. Gracias por elegir la Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L. Este producto es exclusivo para uso doméstico. Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.

Instrucciones de seguridad

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Por favor, mantenga la freidora de aire y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Sólo para uso en interiores.
- Si el cable de alimentación está dañado o roto, debe ser sustituido por el fabricante o por el servicio postventa para evitar riesgos de seguridad.
- La temperatura de la superficie accesible puede aumentar mientras la freidora de aire está funcionando.
- La superficie se calentará fácilmente mientras la freidora de aire esté en uso.
- La freidora de aire no debe funcionar a través de un temporizador externo o un mando a distancia independiente.
- No bloquee la entrada y salida de aire de la freidora de aire, ni los conductos de disipación de calor durante su uso para no afectar a su normal disipación de calor.
- Cualquier persona no profesional que no sea un técnico cualificado no debe modificar el cableado interno de la freidora de aire.
- No utilice carbón ni otras fuentes de combustible similares para calentar la cesta, la placa de freír o la parrilla.
- No coloque la cesta sobre ninguna otra fuente de calor, como una cocina de inducción o una estufa de gas.
- No enchufe o desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas para evitar el riesgo de una descarga eléctrica.


- No utilice un cable de alimentación con una conexión floja o un contacto deficiente.
- No deje que el cable de alimentación pase por objetos afilados para evitar que se dañe.
- No utilice la freidora de aire para almacenar ningún artículo, especialmente los inflamables, explosivos o corrosivos.
- No pellizque, doble, retuerza o coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación para evitar que se exponga o rompa su núcleo.
- Deje de utilizar la freidora de aire inmediatamente y desenchúfela de la fuente de alimentación si no funciona con normalidad o se avería.
- La freidora de aire no puede ponerse en marcha sin que la cesta esté colocada.
- No toque la cesta directamente con las manos durante o justo después de su uso para evitar quemarse.
- No permita que los niños se acerquen o jueguen con el envoltorio y el embalaje para evitar accidentes por asfixia.
- No utilice utensilios de plástico ni materiales de envoltura de papel normales para envolver alimentos para cocinar.
- No deje caer esta freidora de aire ni la golpee contra objetos duros para evitar daños o un mal funcionamiento.
- No introduzca alfileres, cables u otros objetos en ninguna de las aberturas de la freidora de aire para evitar una descarga eléctrica o lesiones.
- No utilice ningún accesorio que no esté recomendado por el fabricante.
- El rango de altitud normal de funcionamiento de este producto es de 0 a 2000 metros.
- Mantenga una distancia de 30 cm o más entre la salida de aire y otros dispositivos, durante su uso.
- No mueva ni agite la freidora de aire durante su uso.
- No introduzca ningún objeto extraño en el interruptor de seguridad para no causar ningún peligro.
- Cuando coloque la freidora de aire en un armario de cocina, etc., asegúrese de que esté bien ventilada.

- Por favor, asegúrese de desenchufar la freidora de aire antes de limpiarla o repararla.
- Este producto debe utilizarse en una superficie plana y resistente al calor para evitar daños en el producto o accidentes.
- Asegúrese de que las piezas de silicona de la freidora de aire no entren en contacto con etanol o soluciones que contengan más del 50 % de alcohol.
- Por favor, asegúrese de que la toma de corriente a la que se enchufa la freidora de aire está bien conectada a tierra para evitar una descarga eléctrica u otros riesgos de seguridad.



PRECAUCIÓN: Superficies calientes.

Descripción del producto



- Notas: 1. La goma de silicona de la placa de freír está hecha de materiales de grado alimentario resistentes a altas temperaturas para evitar que los bordes de la placa de freír rayen el revestimiento de la cesta y para mejorar la estabilidad de la placa de freír. No retire la goma de silicona de la placa de freír.
2. Los ingredientes demasiado pequeños no son adecuados para su uso en la parrilla. Por favor, asegúrese de que los ingredientes no caen por los huecos de la parrilla.

Mando de control



- 1
Pulse para confirmar la selección.



- 2
Mantenga pulsado durante 1 segundo para volver al menú anterior.



- 3
Gire a la izquierda/derecha para cambiar de función.



- 4
Pulse el botón de encendido/apagar.

Modo de uso

Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido para encender la freidora de aire.

- Notas: 1. Cuando la freidora de aire se encienda por primera vez, pulse el botón de encendido y vaya a la pantalla de selección de idioma, gire el mando de control hasta el idioma deseado y luego pulse el mando de control para confirmar la selección.
2. La freidora de aire puede desprender un ligero olor en el primer uso. Se recomienda hacer funcionar la freidora de aire con una cesta vacía a la temperatura máxima (220 °C) durante cinco minutos para eliminar el olor. La freidora de aire puede emitir una pequeña cantidad de humo blanco o un olor mientras funciona con la cesta vacía, lo cual es normal.

Encendido

Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido para encender la freidora de aire.

Apagado





Pulse el botón de encendido para apagar la freidora de aire, independientemente del estado en que se encuentre.



Configurar el Wi-Fi

- Reiniciar el Wi-Fi:
Pulse el mando de control para entrar en "Restablecer Wi-Fi" mientras está en la pantalla "Wi-Fi", pulse el mando de control para seleccionar Sí para restablecer el Wi-Fi, o gire el mando de control para seleccionar No para abandonar el restablecimiento del Wi-Fi.
- Activar/desactivar el Wi-Fi:
Pulse el mando de control para entrar en "¿Activar/¿Desactivar Wi-Fi?" mientras está en la pantalla "Wi-Fi", luego pulse el mando de control para seleccionar Sí para activar o desactivar el Wi-Fi, o gire el mando de control para seleccionar No para descartar el cambio.

Indicador de estado del Wi-Fi

			
Esperando conexión rápida...	Reconectando después de una desconexión...	Conectado correctamente	Actualizando...
El indicador Wi-Fi parpadea lentamente	El indicador Wi-Fi parpadea rápidamente	El indicador de Wi-Fi permanece encendido	El indicador Wi-Fi parpadea rápidamente

Nota: Si la freidora de aire no se conecta al Wi-Fi durante 30 minutos, el indicador de Wi-Fi se apagará.

Actualización de firmware

Cuando actualice el firmware a través de la aplicación Mi Home/Xiaomi Home, la pantalla mostrará que hay una actualización en curso y la freidora de aire se reiniciará automáticamente cuando se complete la actualización.

Nota: La aplicación Mi Home/Xiaomi Home podrá actualizar el firmware a menos que la freidora de aire o su pantalla estén apagadas, o la Wi-Fi esté desconectada. No se pueden realizar otras operaciones cuando la actualización del firmware está en curso.

Conexión con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home*. Controle su dispositivo con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home.



- Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Se le dirigirá a la página de configuración de conexión si la aplicación ya está instalada. O busque "Mi Home/Xiaomi Home" en la App Store para descargarla e instalarla.
- Abra la aplicación Mi Home/Xiaomi Home, pulse "+" en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

* La aplicación se conoce como Xiaomi Home en Europa (excepto en Rusia). El nombre de la aplicación que aparece en su dispositivo debe ser tomado como el predeterminado.

Nota: La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.

Cocción

Preparativos

Los ingredientes se pueden marinar al gusto antes de cocinarlos.

Cómo iniciar un programa de cocina

1. Coloque la freidora de aire en una superficie estable y nivelada y asegúrese de que haya circulación de aire alrededor de la freidora de aire.

2. Coloque el placa de freír en la cesta y añada los ingredientes uno a uno. Si hay más ingredientes, utilice la parrilla para apilarlos.

Nota: Si se apilan los ingredientes sin utilizar la parrilla, la cocción se verá afectada.

3. Cuando la cesta esté completamente introducida en la freidora de aire, gire y pulse el mando de control para seleccionar el modo manual o la receta preestablecida (yogur, alitas de pollo, patatas fritas, etc.), gire y pulse el mando de control para ajustar el modo (parrilla crujiente/desgrasado, compatible con determinadas recetas), la cantidad de ingredientes (una capa/dos capas), la temperatura y el tiempo, y pulse el mando de control para iniciar el programa de cocción y la cuenta atrás del tiempo de cocción. Para un programa de cocción programado, la freidora de aire iniciará automáticamente la cocción a una hora adecuada para garantizar que la cocción se complete a la hora programada.

Notas:

1. El tiempo y la temperatura de cocción pueden ajustarse girando el mando de control durante la cocción, excepto para cocinar yogur. Cuando cocine en el modo desgrasado, sólo podrá ajustar el tiempo de cocción, no la temperatura de cocción.
2. Una vez que gire el mando de control para ajustar el tiempo de cocción o la temperatura, deberá pulsar el mando de control para confirmar, de lo contrario la freidora de aire seguirá cocinando según los ajustes originales después de cinco segundos.
3. No se puede modificar la receta durante la cocción.

4. No es necesario dar la vuelta a los ingredientes durante la cocción (a menos que esté cocinando patatas fritas). Cuando haya seleccionado más de 500 g de patatas fritas, aparecerá una indicación para dar la vuelta a los ingredientes a la mitad. Siga la indicación para sacar la cesta y dar la vuelta a los ingredientes, después vuelva a colocar la cesta completamente en la freidora de aire y pulse el mando de control para continuar la cocción.

5. La freidora de aire emitirá un pitido y "Completado" aparecerá en la pantalla para indicar que el programa de cocción ha finalizado (para algunas recetas, la freidora de aire entrará en el estado de mantenimiento del calor y mostrará "Manteniendo caliente..."). Saque con cuidado la cesta y utilice las pinzas para retirar los alimentos.

PRECAUCIÓN: Cuando la cocción ha terminado, la cesta está muy caliente, así que no la toque para evitar escaldarse.

Otras operaciones

1. Ajustes de idioma

- Encienda la freidora de aire, vaya a los ajustes y pulse el mando de control para entrar en la pantalla de selección de idioma.
- Gire el mando de control hasta el idioma deseado y púselo para confirmar.

2. Modo manual

- Cuando la freidora de aire esté encendida, pulse el mando de control para entrar en el modo manual, luego gire el mando de control hasta la temperatura de cocción deseada, pulse el mando de control para ajustar el tiempo y gire el mando de control hasta el tiempo de cocción deseado, y finalmente pulse el mando de control para iniciar el programa de cocción manual.

3. Ajuste de temperatura/tiempo

- La temperatura puede ajustarse entre 40 °C y 220 °C. El tiempo puede ajustarse entre 0–24 horas.
- Cuando ajuste el tiempo de cocción o la hora programada de finalización, preste atención a la velocidad a la que gira el mando de control. Cuando el rango de tiempo ajustado es ≥ 60 minutos, girando el mando de control rápidamente ajustará el tiempo en 60 minutos, mientras que girando el mando de control lentamente ajustará el tiempo en 1 minuto. Cuando el rango de tiempo ajustado es < 60 minutos, girando el mando de control rápidamente ajustará el tiempo en 10 minutos, mientras que girando el mando de control lentamente ajustará el tiempo en 1 minuto.
- La temperatura de cocción se ajusta en 5 °C por cada giro del mando de control.
- Si ajusta o modifica los parámetros de tiempo en el programa de cocción de recetas, cuando la temperatura de cocción está entre 80 °C y 220 °C, el tiempo de cocción ajustable es ≤ 1 hora; cuando la temperatura de cocción es < 80 °C, el tiempo de cocción ajustable es ≤ 24 horas.

4. Cocción programada

- Pulse el mando de control para seleccionar la función de programación, gire el mando de control para seleccionar la receta programada y, a continuación, ajuste el tiempo de cocción y la hora programada. La freidora de aire comenzará a cocinar automáticamente a una hora adecuada para garantizar que la cocción se complete a la hora programada y, a continuación, entrará en el estado de mantenimiento del calor o finalizará la cocción una vez terminada.

Notas:

1. El tiempo programado debe ser superior al tiempo de cocción, pero inferior a 24 horas.
2. La hora programada aquí es la hora programada de finalización. Por ejemplo, cuando la pantalla muestra 02:40, significa que la cocción finalizará en 2 horas y 40 minutos.
3. La función de programación no es compatible con los modos de yogur, fruta deshidratada y descongelación.

5. Función de mantenimiento de calor

- La función de mantenimiento de calor está activada por defecto. Puede desactivarla en los ajustes.
- El tiempo de mantenimiento de calor es de 30 minutos, mientras que la temperatura de mantenimiento de calor es de 80 °C. El mantenimiento de calor y su temporización se suspenderán si se extrae la cesta. Si vuelve a introducir la cesta antes de que transcurran 3 minutos, el mantenimiento del calor continuará con los ajustes de tiempo conservados. Si la cesta no se vuelve a colocar en 3 minutos, el mantenimiento del calor finalizará y la freidora de aire volverá a la pantalla de inicio de la receta correspondiente.

PRECAUCIÓN: Cuando el mantenimiento de calor está activado y la temperatura de cocción está ajustada a ≥ 80 °C, la operación de mantenimiento de calor se realizará una vez finalizada la cocción. De lo contrario, la freidora de aire finalizará directamente la cocción entrando en la pantalla de cocción finalizada.

6. Pausar/Cancelar la cocción

- Cuando la freidora de aire esté en modo de cocción, pulse el mando de control para pausar la cocción. Cuando la freidora de aire esté cocinando o en pausa, mantenga pulsado el mando de control durante un segundo para entrar en la pantalla de cancelación de la cocción. Seleccione Sí para cancelar la cocción y entrar en la pantalla del modo manual.

PRECAUCIÓN: Durante la cocción, puede girar el mando de control para ajustar los parámetros de temperatura y tiempo. Los números correspondientes parpadearán durante el ajuste. Una vez finalizado el ajuste, pulse el mando de control para confirmar los nuevos parámetros.

7. Modo de receta en la nube

- Si selecciona y ejecuta una receta en la nube con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home, la freidora de aire cocinará automáticamente según la receta. Después de cocinar, la freidora de aire entrará en la pantalla del modo manual.

Notas: 1. Al ejecutar recetas en la nube, puede seleccionar la función de programación.

2. No puede ejecutar recetas en la nube en las siguientes situaciones:

1) La freidora de aire o su pantalla están apagadas. 2) No hay conexión Wi-Fi. 3) La freidora de aire está cocinando, manteniendo caliente o en modo programado. 4) Se ha extraído la cesta.

8. Mensaje de error

- Cuando la freidora de aire detecte un error, la pantalla mostrará "E1" o "E2", y la freidora de aire emitirá tres breves pitidos.

Limpieza y mantenimiento

Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar y mantener la freidora de aire, y espere a que se enfríe hasta una temperatura segura antes de proceder. Por favor, retire la cesta de la freidora de aire cuando la limpie.

- Superficie de la freidora de aire:

La superficie de la freidora de aire puede limpiarse con un paño seco y suave o con una esponja humedecida con un detergente neutro.

- Cubeta:

Para eliminar las manchas del interior de la freidora de aire, aplique una cantidad adecuada de detergente diluido en agua caliente en su superficie y déjelo reposar durante unos 10 minutos, luego utilice una esponja suave humedecida con agua para limpiar los restos de detergente.

- Cesta:

Limpie la freidora de aire después de cada uso. La cesta de la freidora de aire está recubierta, por lo que no utilice lana de acero ni otros materiales de limpieza abrasivos para limpiarla, ya que podrían dañar el recubrimiento.

- Placa de freír y parrilla:

Puede utilizar un paño suave de algodón o una esponja humedecida con detergente neutro para limpiarla, y luego humedecerla con agua para eliminar los restos de detergente.

Nota: La placa de freír y la parrilla pueden separarse y colocarse en el lavavajillas para su limpieza; la cesta puede lavarse en agua y limpiarse en el lavavajillas; sin embargo, la freidora de aire no puede lavarse en agua ni limpiarse en el lavavajillas.

Precauciones de limpieza

1. Después de utilizar la freidora de aire, desenchufe el conector de energía a tiempo y no coloque la freidora de aire cerca de una fuente de llama ni la sumerja en agua. No coloque el conector de energía directamente sobre la freidora de aire para evitar que el enchufe raye su superficie.
2. La limpieza y el mantenimiento sólo deben realizarse después de que la freidora de aire se haya enfriado.
3. No utilice materiales de limpieza o detergentes corrosivos o abrasivos.

Nota: La limpieza y el mantenimiento regulares de la freidora de aire ayudarán a prolongar su vida útil.

Consejos de mantenimiento


- La freidora de aire sólo debe ser reparada por técnicos profesionales y cualificados.
- Otras personas no deben reparar la freidora de aire sin permiso para evitar consecuencias graves.
- Si la freidora de aire no funciona correctamente, consulte la sección de resolución de posibles problemas antes de ponerse en contacto con el equipo de servicio posventa.
- Si el problema no se puede resolver, desenchufe el cable de alimentación y desconéctelo y póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.

Resolución de posibles problemas

Problema	Posibles causas	Soluciones
La freidora de aire no funciona.	La freidora de aire no está conectada a una fuente de alimentación.	Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente con conexión a tierra.
	La cesta no está colocada en su sitio.	Saque la cesta y vuelva a colocarla en su sitio.
La pantalla muestra E1.	El sensor tiene un circuito roto.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
La pantalla muestra E2.	El sensor tiene un cortocircuito.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
El ventilador no gira.	El aspa del ventilador está atascada.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
	El motor está dañado u otros componentes tienen un circuito roto.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
Sale humo blanco.	Está cocinando ingredientes grasos.	Cuando se fríen ingredientes que contienen más grasa, saldrá mucho humo, lo cual es normal.
	La freidora de aire todavía contiene residuos de grasa del programa de cocción anterior.	Asegúrese de limpiar la freidora de aire después de cada programa de cocción.
No se puede introducir la cesta en la freidora de aire con facilidad.	Hay demasiados ingredientes en la cesta.	Los ingredientes de la cesta no pueden superar la marca máxima.
	La cesta no está bien introducida.	Inserte correctamente la cesta.
La función de programación no funciona como se solicita.	El tiempo programado es demasiado corto.	El tiempo programado debe ser superior al tiempo de cocción.
	La hora programada no se ha guardado.	El tiempo programado debe guardarse y llevarse a cabo pulsando el mando de control.
No se puede conectar el Wi-Fi.	La aplicación Mi Home/Xiaomi Home no es la última versión.	Actualice la aplicación Mi Home/Xiaomi Home a la última versión.
	La señal Wi-Fi es débil.	Desplácese a un lugar donde la señal sea lo suficientemente fuerte.
No se puede conectar la freidora de aire.	No se puede conectar a la red Wi-Fi.	Compruebe si el Wi-Fi se conecta con normalidad o reinicie el Wi-Fi para volver a conectarse.

Diagrama eléctrico

- ① Pantalla LCD
- ② Interruptor de seguridad
- ③ Panel de control
- ④ Elemento calefactor
- ⑤ Fusible
- ⑥ Motor
- ⑦ Fusible
- ⑧ Cuadro de potencia



Especificaciones

Nombre: Horno (freidora de aire)	Capacidad: 6,5 L	Color: Negro
Modelo: MAF10	Frecuencia nominal: 50–60 Hz	Peso neto: 5,4 kg
Potencia nominal: 1800 W	Tensión nominal: 220–240 V~	Peso bruto: 6,5 kg
Potencia máxima de salida: <20 dBm	Dimensiones del paquete: 425 × 330 × 355 mm	
Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C	Frecuencia de funcionamiento: 2412–2472 MHz	
Conexión inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz		

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

CE Por la presente, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico de horneado (freidora de aire) MAF10 cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
 Para un manual electrónico detallado, vaya a www.mi.com/global/service/userguide



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
 Fabricado por: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
 (una empresa Mi Ecosystem)
 Dirección: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
 Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
 Para obtener más información, visite www.mi.com

Versión del manual del usuario: V1.0

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Xiaomi Smart Heißluft-Fritteuse 6,5 l entschieden haben. Dieses Produkt ist nur für den Betrieb im Haushalt gedacht.

Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, soweit sie nicht älter als 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
- Bitte bewahren Sie die Heißluft-Fritteuse und das Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Nur für den Betrieb im Haushalt.
- Wenn das Stromkabel beschädigt oder gebrochen ist, muss es durch den Hersteller oder den Kundendienst ersetzt werden, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.
- Die Temperatur der berührbaren Oberfläche kann ansteigen, während die Heißluft-Fritteuse arbeitet.
- Die Oberfläche erwärmt sich leicht, während die Heißluft-Fritteuse in Verwendung ist.
- Die Heißluft-Fritteuse sollte nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernbedienung betrieben werden.
- Blockieren Sie während der Verwendung weder den Luftein- und -auslass der Heißluft-Fritteuse noch die Wärmeabfuhröffnungen, um die normale Wärmeabgabe nicht zu beeinträchtigen.
- Die interne Verkabelung der Heißluft-Fritteuse darf von nicht fachlich geschulten Technikern nicht verändert werden.
- Verwenden Sie keine Holzkohle oder ähnliche Brennstoffe zum Erhitzen des Korbs, der Frittierplatte oder des Grills.
- Stellen Sie den Korb nicht auf andere Wärmequellen, wie z. B. einen Induktionsherd oder Gasherd.
- Stecken Sie den Stecker des Stromkabels nicht mit nassen Händen ein oder ziehen Sie den Stecker nicht ab, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein Stromkabel mit einem losen Anschluss oder schlechtem Kontakt.


- Lassen Sie das Stromkabel nicht über scharfe Gegenstände laufen, um eine Beschädigung des Stromkabels zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Heißluft-Fritteuse nicht zur Aufbewahrung von Gegenständen, insbesondere von brennbaren, explosiven oder ätzenden Gegenständen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Stromkabel nicht übermäßig einklemmen, knicken, verdrehen oder mit schweren Gegenständen belasten, um zu verhindern, dass der Kern freigelegt wird oder bricht.
- Stellen Sie die Verwendung der Heißluft-Fritteuse sofort ein und ziehen Sie den Stecker von der Stromquelle ab, wenn sie nicht normal funktioniert oder Fehlfunktionen aufweist.
- Die Heißluft-Fritteuse darf nicht gestartet werden, wenn der Korb nicht eingesetzt ist.
- Berühren Sie den Korb während oder direkt nach der Verwendung nicht direkt mit den Händen, damit sie sich nicht verbrühen.
- Erteilen Sie Kindern keine Erlaubnis, in die Nähe der Frischhaltefolie und der Verpackung zu kommen oder damit zu spielen, um Erstickungsunfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Plastikutensilien oder normales Papier zum Einwickeln von Lebensmitteln für das Garen.
- Lassen Sie die Heißluft-Fritteuse nicht fallen und stoßen Sie sie nicht gegen harte Gegenstände, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Stecken Sie keine Stifte, Drähte oder andere Gegenstände in die Öffnungen der Heißluft-Fritteuse, um einen Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Der normale Betriebshöhenbereich dieses Produkts beträgt 0 bis 2000 Meter.
- Halten Sie bei der Verwendung einen Abstand von 30 cm oder mehr zwischen dem Luftauslass und anderen Geräten ein.
- Bewegen oder schütteln Sie die Heißluft-Fritteuse nicht während des Betriebes.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in den Sicherheitsschalter, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Wenn Sie die Heißluft-Fritteuse in einem Küchenschrank usw. aufstellen, achten Sie bitte darauf, dass sie gut belüftet ist.
- Bitte ziehen Sie den Stecker der Heißluft-Fritteuse vor der Reinigung oder Reparatur ab.

- Dieses Produkt muss auf einer ebenen, hitzebeständigen Oberfläche verwendet werden, um Schäden am Produkt oder Unfälle zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Silikonteile der Heißluft-Fritteuse nicht mit Ethanol oder Lösungen, die mehr als 50 % Alkohol enthalten, in Kontakt kommen.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose, an die die Heißluft-Fritteuse angeschlossen ist, gut geerdet ist, um einen Stromschlag oder andere Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.



VORSICHT: Heiße Oberflächen.

Produktübersicht



Hinweise: 1. Der Silikongummi auf der Frittierplatte besteht aus hochtemperaturbeständigen, lebensmittelechten Materialien, um zu verhindern, dass die Kanten der Frittierplatte die Beschichtung des Korbes zerkratzen und um die Stabilität der Frittierplatte zu verbessern. Entfernen Sie das Silikongummi nicht von der Frittierplatte.
 2. Zu kleine Zutaten sind für die Verwendung auf dem Grill nicht geeignet. Achten Sie darauf, dass die Zutaten nicht durch die Zwischenräume des Grills fallen.

Bedienknopf



1 Drücken Sie, um die Auswahl zu bestätigen.



2 Halten Sie 1 Sekunde lang gedrückt, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



3 Nach links/rechts drehen, um Funktionen zu wechseln.



4 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zum Ein-/Ausschalten.

Verwendung

Schließen Sie das Stromkabel an und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Heißluft-Fritteuse einzuschalten.

Hinweise: 1. Wenn die Heißluft-Fritteuse zum ersten Mal eingeschaltet wird, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und gehen Sie zum Bildschirm der Sprachauswahl, drehen Sie den Bedienknopf auf die gewünschte Sprache und drücken Sie den Bedienknopf, um die Auswahl zu bestätigen.
 2. Die Heißluft-Fritteuse kann bei der ersten Verwendung einen leichten Geruch abgeben. Es wird empfohlen, die Heißluft-Fritteuse mit leerem Korb fünf Minuten lang bei maximaler Temperatur (220 °C) laufen zu lassen, um den Geruch zu entfernen. Die Heißluft-Fritteuse kann beim Betrieb mit leerem Korb eine kleine Menge weißen Rauch oder einen Geruch abgeben, was normal ist.

Einschalten

Schließen Sie das Stromkabel an und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Heißluft-Fritteuse einzuschalten.

Ausschalten





Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Heißluft-Fritteuse auszuschalten, unabhängig davon, in welchem Zustand sie sich befindet.



WLAN konfigurieren

- WLAN zurücksetzen:
Drücken Sie den Bedientaste, um „WLAN zurücksetzen“ aufzurufen, während Sie sich im Bildschirm „WLAN“ befinden, und drücken Sie dann den Bedientaste, um Ja auszuwählen, um das WLAN zurückzusetzen, oder drehen Sie den Bedientaste, um Nein auszuwählen, um das Zurücksetzen des WLANs abzubrechen.
- Aktivieren/Deaktivieren des WLANs:
Drücken Sie den Bedientaste, um „WLAN aktivieren?/deaktivieren?“ aufzurufen, während Sie sich im Bildschirm „WLAN“ befinden, und drücken Sie dann den Bedientaste, um Ja auszuwählen, um das WLAN zu aktivieren/deaktivieren, oder drehen Sie den Bedientaste, um Nein auszuwählen, um die Änderung zu verlassen.

WLAN-Status Kontrollleuchte

			
Warten auf eine schnelle Verbindung...	Wiederherstellen der Verbindung nach einer Unterbrechung...	Verbindung erfolgreich hergestellt	Wird aktualisiert...
WLAN-Kontrollleuchte blinkt langsam	WLAN-Kontrollleuchte blinkt schnell	WLAN-Kontrollleuchte leuchtet ständig	WLAN-Kontrollleuchte blinkt schnell

Hinweis: Wenn die Heißluft-Fritteuse 30 Minuten lang keine Verbindung zum WLAN herstellt, schaltet sich die WLAN-Kontrollleuchte aus.

Firmware-Aktualisierung

Wenn Sie die Firmware über die Mi Home-/Xiaomi Home-App aktualisieren, wird auf dem Bildschirm angezeigt, dass eine Aktualisierung durchgeführt wird, und die Heißluft-Fritteuse startet automatisch neu, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Hinweis: Die Mi Home-/Xiaomi Home-App kann die Firmware nur dann aktualisieren, wenn die Heißluft-Fritteuse oder ihr Bildschirm ausgeschaltet ist oder das WLAN getrennt ist. Andere Vorgänge können nicht durchgeführt werden, wenn die Aktualisierung der Firmware im Gange ist.

Verbinden mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App*. Steuern Sie Ihr Gerät mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App.



- Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Mi Home/Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.
- Öffnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

* In Europa (außer in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App geführt. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App sollte standardmäßig verwendet werden.

Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

Garen

Zubereitungen

Die Zutaten können vor dem Garen nach Belieben mariniert werden.

Starten eines Garprogramms

1. Stellen Sie die Heißluft-Fritteuse auf eine stabile, ebene Fläche und stellen Sie sicher, dass eine Luftzirkulation um die Heißluft-Fritteuse besteht.

2. Legen Sie die Frittierplatte in den Korb und geben Sie die Zutaten nacheinander hinein. Wenn mehr Zutaten vorhanden sind, verwenden Sie den Grill, um sie in zwei Schichten einzulegen.

Hinweis: Wenn Sie die Zutaten schichten, ohne den Grill zu verwenden, wird der Garvorgang beeinträchtigt.

3. Wenn der Korb vollständig in die Heißluft-Fritteuse geschoben ist, drehen und drücken Sie den Bedienknopf, um den manuellen Modus oder das voreingestellte Rezept (Joghurt, Hähnchenflügel, Pommes Frites usw.) auszuwählen, drehen und drücken Sie den Bedienknopf, um den Modus (knusprig grillen/entfetten, unterstützt von bestimmten Rezepten), die Anzahl der Zutaten (eine Schicht/doppelte Schicht), die Temperatur und die Zeit einzustellen, und drücken Sie den Bedienknopf, um das Garprogramm und den Countdown für die Garzeit zu starten. Bei einem geplanten Garprogramm startet die Heißluft-Fritteuse den Garvorgang automatisch zu einer ordnungsgemäßen Zeit, um sicherzustellen, dass dieser zum geplanten Zeitpunkt abgeschlossen ist.

Hinweise:

1. Die Garzeit und die Temperatur können durch Drehen des Bedienknopfes während des Garens verstellt werden, mit Ausnahme des Zubereitens von Joghurt. Beim Garen im Entfetten-Modus können Sie nur die Zeit, nicht aber die Temperatur verstellen.
2. Wenn Sie den Bedienknopf drehen, um die Garzeit oder die Temperatur zu verstellen, müssen Sie den Bedienknopf zur Bestätigung drücken, ansonsten wird die Heißluft-Fritteuse nach fünf Sekunden mit der ursprünglichen Einstellung weitergaren.
3. Sie können das Rezept nicht während des Garens wechseln.

4. Die Zutaten müssen während des Garens nicht gewendet werden (es sei denn, Sie bereiten Pommes frites zu). Wenn Sie mehr als 500 g Pommes frites ausgewählt haben, erscheint eine Aufforderung, die Zutaten zur Hälfte der Zeit zu wenden. Folgen Sie der Aufforderung, den Korb zum Wenden der Zutaten herauszuziehen, stellen Sie den Korb dann wieder vollständig in die Heißluft-Fritteuse und drücken Sie den Bedienknopf, um den Garvorgang fortzusetzen.

5. Die Heißluft-Fritteuse gibt einen Signalton ab und auf dem Bildschirm erscheint „Fertig“, um anzuzeigen, dass das Garprogramm abgeschlossen ist (bei einigen Rezepten ruft die Heißluft-Fritteuse den Status Warmhalten auf und zeigt „Warmhalten...“ an). Nehmen Sie den Korb vorsichtig heraus und verwenden Sie die Klammern, um das Gargut zu entfernen.

VORSICHT: Nach Beendigung des Garvorgangs ist der Korb sehr heiß, berühren Sie ihn daher nicht, um Verbrühungen zu vermeiden.

Andere Vorgänge

1. Spracheinstellungen

- Schalten Sie die Heißluft-Fritteuse ein, gehen Sie zu Einstellungen und drücken Sie den Bedienknopf, um den Bildschirm zur Sprachauswahl aufzurufen.
- Drehen Sie den Bedienknopf auf die gewünschte Sprache und drücken Sie ihn zur Bestätigung.

2. Manueller Modus

- Wenn die Heißluft-Fritteuse eingeschaltet ist, drücken Sie den Bedienknopf, um in den manuellen Modus zu gelangen, drehen Sie dann den Bedienknopf, um die gewünschte Gartemperatur einzustellen, drücken Sie den Bedienknopf, um die Zeit einzustellen und drehen Sie den Bedienknopf auf die gewünschte Garzeit, und drücken Sie schließlich den Bedienknopf, um das manuelle Garprogramm zu starten.

3. Temperatur/Zeit-Verstellen

- Die Temperatur kann zwischen 40 °C und 220 °C verstellt werden. Die Zeit kann zwischen 0 bis 24 Stunden verstellt werden.
- Achten Sie beim Verstellen der Garzeit oder der geplanten Zeit zur Fertigstellung auf die Geschwindigkeit, mit der Sie den Bedienknopf drehen. Wenn der verstellte Zeitbereich \geq 60 Minuten beträgt, können Sie durch schnelles Drehen des Bedienknopfes die Zeit um 60 Minuten verstellen, während Sie durch langsames Drehen des Bedienknopfes die Zeit um 1 Minute verstellen können. Wenn der verstellte Zeitbereich $<$ 60 Minuten ist, wird durch schnelles Drehen des Bedienknopfes die Zeit um 10 Minuten verstellt, während Sie durch langsames Drehen des Bedienknopfes die Zeit um 1 Minute verstellen können.
- Die Temperatur wird bei jeder Drehung des Bedienknopfes um 5 °C verstellt.
- Wenn Sie die Zeitparameter im Rezeptgarprogramm verstellen oder ändern, beträgt die verstellbare Garzeit \leq 1 Stunde, wenn die Temperatur zwischen 80 °C und 220 °C liegt; bei einer Temperatur $<$ 80 °C beträgt die verstellbare Garzeit \leq 24 Stunden.

4. Geplantes Garen

- Drücken Sie den Bedienknopf, um die Zeitplan-Funktion auszuwählen, drehen Sie den Bedienknopf, um das geplante Rezept auszuwählen, und stellen Sie dann die Garzeit und die geplante Uhrzeit ein. Die Heißluft-Fritteuse startet den Garvorgang automatisch zu einer ordnungsgemäßen Zeit, um sicherzustellen, dass der Garvorgang zur geplanten Zeit abgeschlossen ist, und ruft dann den Status Warmhalten auf oder beendet den Garvorgang nach dem Ablauf.

Hinweise:

1. Die geplante Zeit muss länger als die Garzeit sein, aber weniger als 24 Stunden.
2. Die hier angegebene geplante Zeit ist die geplante Zeit der Fertigstellung. Wenn auf dem Bildschirm z.B. 02:40 angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Garvorgang innerhalb von 2 Stunden und 40 Minuten abgeschlossen sein wird.
3. Die Zeitplan-Funktion wird in den Modi Joghurt, Trockenobst und Auftauen nicht unterstützt.

5. Warmhalte-Funktion

- Die Warmhalte-Funktion ist standardmäßig aktiviert. Sie können diese Funktion in den Einstellungen deaktivieren.
- Die Zeit des Warmhaltens beträgt 30 Minuten, während die Temperatur des Warmhaltens 80 °C beträgt. Das Warmhalten und die damit verbundene Zeit werden unterbrochen, wenn der Korb herausgezogen wird. Wenn Sie den Korb innerhalb von 3 Minuten wieder hineinstellen, wird das Warmhalten mit der eingestellten Zeiteinteilung fortgesetzt. Wird der Korb nicht innerhalb von 3 Minuten wieder zurückgestellt, endet das Warmhalten und die Heißluft-Fritteuse kehrt zur Startseite des entsprechenden Rezepts zurück.

VORSICHT: Wenn das Warmhalten eingeschaltet ist und die Temperatur auf ≥ 80 °C eingestellt ist, wird der Vorgang des Warmhaltens nach der Fertigstellung des Garvorgangs durchgeführt. Andernfalls wird die Heißluft-Fritteuse den Garvorgang direkt beenden, indem sie den Bildschirm Fertigstellung des Garvorgangs aufruft.

6. Garen unterbrechen/abbrechen

- Wenn sich die Heißluft-Fritteuse im Garmodus befindet, drücken Sie den Bedienknopf, um den Garvorgang zu unterbrechen. Wenn die Heißluft-Fritteuse gart oder pausiert, drücken Sie den Bedienknopf und halten ihn eine Sekunde lang gedrückt, um den Bildschirm zum Abbrechen des Garvorgangs aufzurufen. Wählen Sie Ja, um den Garvorgang abzubrechen und den Bildschirm für den manuellen Modus aufzurufen.

VORSICHT: Während des Garvorgangs können Sie den Bedienknopf verstellen, um die Parameter für Temperatur und Zeiteinteilung zu verstellen. Die entsprechenden Zahlen blinken während des Verstellens. Sobald das Verstellen abgeschlossen ist, drücken Sie den Bedienknopf, um die neuen Parameter zu bestätigen.

7. Cloud-Rezept-Modus

- Wenn Sie mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App ein Cloud-Rezept auswählen und ausführen, gart die Heißluft-Fritteuse automatisch gemäß dem Rezept. Nach dem Garen ruft die Heißluft-Fritteuse den Bildschirm für den manuellen Modus auf.

Hinweise: 1. Beim Ausführen von Cloud-Rezepten können Sie die Zeitplan-Funktion auswählen.

2. In den folgenden Situationen können Sie keine Cloud-Rezepte ausführen:

- 1) Die Heißluft-Fritteuse oder ihr Bildschirm ist ausgeschaltet.
- 2) Es besteht keine WLAN-Verbindung.
- 3) Die Heißluft-Fritteuse gart, hält sich warm oder befindet sich im Zeitplan-Modus.
- 4) Der Korb ist herausgezogen worden.

8. Fehlermeldung

- Wenn die Heißluft-Fritteuse einen Fehler erkennt, wird auf dem Bildschirm „E1“ oder „E2“ angezeigt, und die Heißluft-Fritteuse gibt drei kurze Signaltöne ab.

Reinigung und Wartung

Ziehen Sie den Stecker des Stromkabels ab, bevor Sie die Heißluft-Fritteuse reinigen und warten Sie, bis sie auf Raumtemperatur abgekühlt ist, bevor Sie fortfahren. Bitte nehmen Sie den Korb aus der Heißluft-Fritteuse, wenn Sie die Heißluft-Fritteuse reinigen.

Oberfläche der Heißluft-Fritteuse:

Die Oberfläche der Heißluft-Fritteuse kann mit einem trockenen, weichen Tuch oder einem mit einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchteten Schwamm abgewischt werden.

Innenraum:

Um Flecken aus dem Inneren der Heißluft-Fritteuse zu entfernen, tragen Sie eine geeignete Menge in heißem Wasser verdünntes Reinigungsmittel auf die Oberfläche auf und lassen Sie es ca. zehn Minuten einwirken, dann verwenden Sie einen weichen, mit Wasser befeuchteten Schwamm, um die Reinigungsmittelreste abzuwischen.

Korb:

Reinigen Sie die Heißluft-Fritteuse nach jedem Gebrauch. Der Korb der Heißluft-Fritteuse ist beschichtet, verwenden Sie daher keine Stahlwolle oder andere scheuernde Reinigungsmittel zur Reinigung, da diese die Beschichtung beschädigen können.

Frittierplatte und Grill:

Sie können ein weiches, mit neutralem Reinigungsmittel angefeuchtetes Baumwolltuch oder einen Schwamm zum Abwischen verwenden und anschließend mit Wasser befeuchten, um die Reinigungsmittelreste abzuwischen.

Hinweis: Die Frittierplatte und der Grill können getrennt und in der Spülmaschine gereinigt werden; der Korb kann mit Wasser gewaschen werden, und kann in der Spülmaschine gereinigt werden; die Heißluft-Fritteuse darf jedoch weder mit Wasser gewaschen noch in der Spülmaschine gereinigt werden.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung

1. Nach der Verwendung der Heißluft-Fritteuse ziehen Sie bitte rechtzeitig den Netzstecker ab und stellen Sie die Heißluft-Fritteuse nicht in die Nähe einer Wärmequelle und tauchen Sie sie nicht in Wasser. Legen Sie den Netzstecker nicht direkt auf die Heißluft-Fritteuse, um zu verhindern, dass der Stecker die Oberfläche zerkratzt.
2. Reinigen und warten Sie erst, wenn die Heißluft-Fritteuse abgekühlt ist.
3. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmaterialien oder Reinigungsmittel.

Hinweis: Eine regelmäßige Reinigung und Wartung der Heißluft-Fritteuse trägt zur Verlängerung ihrer Lebensdauer bei.

Wartungstipps


- Reparaturen an der Heißluft-Fritteuse sollten nur von professionell ausgebildeten und qualifizierten Technikern durchgeführt werden.
- Andere sollten die Heißluft-Fritteuse nicht ohne Erlaubnis reparieren, um ernsthafte Folgen zu vermeiden.
- Wenn sich die Heißluft-Fritteuse nicht normal verhält, lesen Sie bitte den Abschnitt Fehlerbehebung, bevor Sie sich an das Kundendienst-Team wenden.
- Lässt sich das Problem nicht beheben, ziehen Sie bitte den Stecker des Stromkabels ab, trennen Sie ihn ab und wenden Sie sich an das Kundendienst-Team.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Heißluft-Fritteuse arbeitet nicht.	Die Heißluft-Fritteuse ist nicht an ein Netzteil angeschlossen.	Stecken Sie das Stromkabel in eine geerdete Steckdose.
	Der Korb wurde nicht an seinen Platz eingeschoben.	Ziehen Sie den Korb heraus und schieben Sie ihn wieder an seinen Platz.
Bildschirm zeigt E1 an.	Der Sensor hat einen unterbrochenen Stromkreis.	Wenden Sie sich an das Kundendienst-Team.
Bildschirm zeigt E2 an.	Der Sensor hat einen Kurzschluss.	Wenden Sie sich an das Kundendienst-Team.
Der Lüfter dreht sich nicht.	Der Lüfterflügel klemmt.	Wenden Sie sich an das Kundendienst-Team.
	Der Motor ist beschädigt oder andere Komponenten haben einen unterbrochenen Stromkreis.	Wenden Sie sich an das Kundendienst-Team.
Es tritt weißer Rauch aus.	Garen von fettigen Zutaten.	Wenn Sie ölige Zutaten, die viel Öl enthalten, frittieren, entsteht eine starke Rauchentwicklung, was normal ist.
	Die Heißluft-Fritteuse enthält noch Fettreste vom vorherigen Garprogramm.	Stellen Sie sicher, dass Sie die Heißluft-Fritteuse nach jedem Garprogramm reinigen.
Der Korb lässt sich nicht problemlos in die Heißluft-Fritteuse einsetzen.	Zu viele Zutaten im Korb.	Die Zutaten im Korb dürfen die Höchstmarke nicht überschreiten.
	Der Korb ist nicht richtig eingesetzt.	Setzen Sie den Korb ordnungsgemäß ein.
Die Zeitplan-Funktion funktioniert nicht wie gewünscht.	Die geplante Zeit ist zu kurz.	Die geplante Zeit sollte länger als die Garzeit sein.
	Die geplante Zeit wird nicht gespeichert.	Die geplante Zeit sollte gespeichert und durch Drücken des Bedienknopfes ausgeführt werden.
WLAN kann nicht verbunden werden.	Die Mi Home-/Xiaomi Home-App ist nicht die neueste Version.	Aktualisieren Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App auf die neueste Version.
	Das WLAN-Signal ist schwach.	Gehen Sie an einen Ort, an dem das Signal stark genug ist.
Die Heißluft-Fritteuse kann nicht verbunden werden.	WLAN-Verbindung nicht möglich.	Prüfen Sie, ob das WLAN normal verbunden ist, oder setzen Sie das WLAN zurück, um die Verbindung wiederherzustellen.

Schaltplan

- ① LCD-Bildschirm
- ② Sicherheitsschalter
- ③ Bedienfeld
- ④ Heizelement
- ⑤ Sicherung
- ⑥ Motor
- ⑦ Sicherung
- ⑧ Stromplatine



Spezifikationen

Bezeichnung: Ofen (Heißluft-Fritteuse)	Fassungsvermögen: 6,5 l	Farbe: Schwarz
Modell: MAF10	Nennfrequenz: 50–60 Hz	Nettogewicht: 5,4 kg
Nennleistung: 1800 W	Nennspannung: 220–240 V~	Bruttogewicht: 6,5 kg
Maximale Ausgangsleistung: <20 dBm	Verpackungsmaße: 425 × 330 × 355 mm	
Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C	Betriebsfrequenz: 2412–2472 MHz	
WLAN-Verbindung: WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		

Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.

CE Hiermit bestätigt Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs Ofen (Heißluft-Fritteuse) MAF10 mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
 Ein detailliertes elektronisches Handbuch finden Sie unter www.mi.com/global/service/userguide

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie größeren Supermärkten abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.

Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
 Hersteller: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
 (ein Unternehmen von MI Ecosystem)
 Adresse: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
 Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
 Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Bedienungsanleitung-Version: V1.0

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Grazie per aver scelto Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo domestico.

Le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Istruzioni di sicurezza


- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano state istruite sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne possono derivare. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano sorvegliati.
- Tenere la friggitrice ad aria e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Solo per uso domestico.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o rotto, deve essere sostituito dal produttore o dal reparto di assistenza post-vendita per evitare rischi alla sicurezza.
- La temperatura della superficie toccabile può aumentare durante il funzionamento della friggitrice ad aria.
- La superficie si riscalda facilmente mentre la friggitrice ad aria è in funzione.
- La friggitrice ad aria non può essere usata con un timer esterno o un telecomando indipendente.
- Al fine di evitare di influenzare la regolare dissipazione del calore, durante l'uso della friggitrice ad aria, non bloccare la presa e l'uscita d'aria della friggitrice ad aria, né le ventole di dissipazione del calore.
- Il cablaggio interno della friggitrice ad aria non deve essere modificato da qualsiasi tecnico non professionista.
- Non usare carbone o altre fonti di combustibile simili per riscaldare il cestello, la piastra o la griglia.
- Non posizionare il cestello su altre fonti di calore, come ad esempio su un fornello a induzione o su di una stufa a gas.
- Al fine di evitare il rischio di scosse elettriche non inserire o disinserire il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

- Non utilizzare un cavo di alimentazione con una connessione allentata o un contatto insufficiente.
- Per evitare danni al cavo di alimentazione, non lasciare che lo stesso attraversi oggetti appuntiti.
- Non utilizzare la friggitrice ad aria per conservare oggetti, specialmente oggetti infiammabili, esplosivi o corrosivi.
- Al fine di evitare di esporre o rompere l'anima del cavo di alimentazione, non stringere eccessivamente, piegare, torcere o mettere oggetti pesanti sul cavo stesso.
- Interrompere immediatamente l'utilizzo della friggitrice ad aria e scollegare dalla fonte di alimentazione se non funziona normalmente o non funziona correttamente.
- La friggitrice ad aria non può essere avviata senza che il cestello sia in posizione.
- Per evitare di scottarsi non toccare il cestello direttamente con le mani durante o subito dopo l'uso.
- Per evitare incidenti per soffocamento, non lasciare che i bambini si avvicinino o giochino con l'involucro e l'imballaggio.
- Non usare utensili di plastica o materiale di carta per avvolgere il cibo per la cottura.
- Non far cadere la friggitrice ad aria e non sbatterla contro oggetti duri per evitare danni o malfunzionamenti.
- Non inserire perni, fili o altri oggetti in nessuna delle aperture della friggitrice ad aria per evitare scosse elettriche o lesioni.
- Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
- La gamma di altitudine di funzionamento normale di questo prodotto è 0–2000 metri.
- Durante l'utilizzo, mantenere una distanza di almeno 30 cm tra l'uscita d'aria e altri dispositivi.
- Durante l'utilizzo, non spostare o scuotere la friggitrice ad aria.
- Per evitare qualsiasi pericolo, non inserire oggetti estranei nell'interruttore di sicurezza.
- Quando si colloca la friggitrice ad aria in una credenza, ecc., assicurarsi che sia ben ventilata.
- Prima di pulire o riparare la friggitrice ad aria, scollegare la spina.
- Per evitare danni al prodotto o incidenti, questo prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana e resistente al calore.

- Assicurarsi che le parti in silicone della friggitrice ad aria non entrino in contatto con etanolo o soluzioni che contengono più del 50% di alcol.
- Assicurarsi che la presa elettrica in cui è inserita la friggitrice ad aria sia ben collegata a terra per evitare scosse elettriche o altri rischi per la sicurezza.

ATTENZIONE: superfici bollenti.

Panoramica del prodotto



- Note:
1. La gomma silconica usata nella piastra è fatta di materiali ad uso alimentare resistenti alle alte temperature per evitare che i bordi della piastra graffino il rivestimento del cestello e per migliorare la stabilità della piastra. Non rimuovere la gomma silconica dalla piastra.
 2. Gli ingredienti di dimensioni troppo piccole non sono adatti ad essere utilizzati sulla griglia. Assicurarsi che gli ingredienti non cadano attraverso le fessure della griglia.

Manopola di controllo



- 1
Premere per confermare la selezione.



- 2
Tenere premuto per un secondo per ritornare al menu precedente.



- 3
Girare a sinistra/destra per cambiare funzione.



- 4
Premere il pulsante di accensione per accendere/spegnere.

Modalità d'uso

Collegare il cavo di alimentazione e premere il pulsante di accensione per accendere la friggitrice ad aria.

- Note:
1. Quando la friggitrice ad aria viene accesa per la prima volta, premere il pulsante di accensione e passare alla schermata di selezione della lingua, ruotare la manopola di controllo sulla lingua desiderata, quindi premere la manopola di controllo per confermare la selezione.
 2. La friggitrice ad aria può emettere un leggero odore al primo utilizzo. Si consiglia di far funzionare la friggitrice ad aria con il cestello vuoto alla temperatura massima (220 °C) per cinque minuti per eliminare l'odore. La friggitrice ad aria può emettere una piccola quantità di fumo bianco o un odore durante il funzionamento con il cestello vuoto, il che è normale.

Accensione

Collegare il cavo di alimentazione e premere il pulsante di accensione per accendere la friggitrice ad aria.

Spegnimento

Premere il pulsante di accensione per spegnere la friggitrice ad aria, indipendentemente dallo stato in cui si trova.



Configurare il Wi-Fi

- Ripristinare il Wi-Fi:
premere la manopola di controllo per accedere a "Ripristino della connessione Wi-Fi" mentre si è nella schermata "Wi-Fi", quindi premere la manopola di controllo per selezionare Sì e ripristinare il Wi-Fi, oppure ruotare la manopola di controllo per selezionare No e non ripristinare il Wi-Fi.
- Attivare/Disattivare il Wi-Fi:
premere la manopola di controllo per accedere a "Attivare il/Disattivare il Wi-Fi?" mentre si è nella schermata "Wi-Fi", quindi premere la manopola di controllo e selezionare Sì per attivare o disattivare il Wi-Fi, oppure girare la manopola di controllo e selezionare No per abbandonare la modifica.

Indicatore di stato del Wi-Fi

			
In attesa di connessione veloce...	Riconnessione dopo la disconnessione...	Connessione riuscita	Aggiornamento...
L'indicatore del Wi-Fi lampeggia lentamente	L'indicatore del Wi-Fi lampeggia velocemente	L'indicatore del Wi-Fi è acceso	L'indicatore del Wi-Fi lampeggia velocemente

Nota: se dopo 30 minuti la friggitrice ad aria non si connette al Wi-Fi, l'indicatore del Wi-Fi si spegnerà.

Aggiornamento firmware

Quando si aggiorna il firmware tramite l'app Mi Home/Xiaomi Home, il display mostrerà che è in corso un aggiornamento e la friggitrice ad aria si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.

Nota: l'app Mi Home/Xiaomi Home sarà in grado di aggiornare il firmware a meno che la friggitrice ad aria o il suo display non siano spenti o il Wi-Fi sia disconnesso. Non è possibile eseguire altre operazioni quando è in corso l'aggiornamento del firmware.

Connessione con l'app Mi Home/Xiaomi Home

Questo prodotto funziona con l'app Mi Home/Xiaomi Home*. Controllate il vostro dispositivo con l'app Mi Home/Xiaomi Home.



67CE8213

- Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l'app. Se l'app è già installata, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione della connessione. In alternativa, cercare l'app "Mi Home/Xiaomi Home" nell'App Store per scaricarla e installarla.
- Aprire l'app Mi Home/Xiaomi Home, toccare il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.

* In Europa, eccetto che in Russia, l'app si chiama Xiaomi Home. Si consiglia di tenere per impostazione predefinita il nome dell'app visualizzato sul dispositivo. Nota: poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.

Cottura in corso

Preparazioni

Gli ingredienti possono essere marinati a piacere prima della cottura.

Avviare un programma di cucina

1. Posizionare la friggitrice ad aria su una superficie stabile e piana e assicurarsi che vi circoli l'aria intorno.

2. Mettere la piastra nel cestello e aggiungere gli ingredienti uno per uno. Se ci sono più ingredienti, usare la griglia per disporli su due strati.

Nota: impilare gli ingredienti senza usare la griglia pregiudicherà i risultati della cottura.

3. Quando il cestello è completamente inserito nella friggitrice ad aria, ruotare e premere la manopola di controllo per selezionare la modalità manuale o la ricetta preimpostata (yogurt, ali di pollo, patatine fritte, ecc.), ruotare e premere la manopola di controllo per impostare la modalità (cottura croccante/sgrassatura, supportata da alcune ricette), la quantità di ingredienti (strato singolo/strato doppio), la temperatura e l'ora, e premere la manopola di controllo per avviare il programma di cottura e il conto alla rovescia del tempo di cottura. Nel caso di un programma di cottura programmato, la friggitrice ad aria avvierà automaticamente la cottura al momento giusto per garantire che la cottura sia completata all'ora prevista.

Note:

1. Il tempo di cottura e la temperatura possono essere regolati girando la manopola di controllo durante la cottura, eccetto durante la preparazione di yogurt. Quando si cucina in modalità sgrassatura, è possibile regolare solo il tempo di cottura, non la temperatura di cottura.

2. Una volta girata la manopola di controllo per regolare il tempo di cottura o la temperatura, è necessario premere la manopola di controllo per confermare, altrimenti la friggitrice ad aria continuerà a cuocere al tempo originale dopo cinque secondi.

3. Non è possibile modificare la ricetta durante la cottura.

4. Non è necessario girare gli ingredienti durante la cottura (a meno che non si cucinino patatine fritte). Quando si selezionano più di 500 g di patatine, viene richiesto di girare gli ingredienti a metà cottura. Seguire la richiesta di estrarre il cestello per girare gli ingredienti, quindi reinserire completamente il cestello nella friggitrice ad aria e premere la manopola di controllo per continuare la cottura.

5. La friggitrice ad aria emetterà un segnale acustico e sul display apparirà la scritta "Operazione completata" per indicare che il programma di cottura è stato completato (per alcune ricette, la friggitrice ad aria entrerà nello stato di mantenimento del calore e visualizzerà "Mantenimento del calore..."). Estrarre con attenzione il cestello e usare le pinze per rimuovere il cibo.

ATTENZIONE: a cottura ultimata, il cestello è molto caldo, quindi non toccarlo per evitare di scottarsi.

Altre operazioni

1. Impostazioni della lingua

- Accendere la friggitrice ad aria, andare alle impostazioni e premere la manopola di controllo per entrare nella schermata di selezione della lingua.
- Ruotare la manopola di controllo sulla lingua desiderata e premerla per confermare.

2. Modalità manuale

- Quando la friggitrice ad aria è accesa, premere la manopola di controllo per accedere alla modalità manuale, ruotare la manopola di controllo fino alla temperatura di cottura desiderata, quindi premere nuovamente la manopola di controllo per impostare il tempo e ruotare la manopola di controllo fino al tempo di cottura desiderato, infine premere la manopola di controllo per avviare il programma di cottura manuale.

3. Regolazione della temperatura/tempo

- La temperatura può essere regolata tra 40 °C e 220 °C. Il tempo può essere regolato tra 0 e 24 ore.
- Quando si regola il tempo di cottura o il tempo di completamento programmato, prestare attenzione alla velocità con cui si ruota la manopola di controllo. Quando l'intervallo di tempo regolato è ≥ 60 minuti, ruotando rapidamente la manopola di controllo si regola il tempo di 60 minuti, mentre ruotando lentamente la manopola di controllo si regola il tempo di 1 minuto. Quando l'intervallo di tempo regolato è < 60 minuti, ruotando la manopola di controllo rapidamente si regola il tempo di 10 minuti, mentre ruotando la manopola di controllo lentamente si regola il tempo di 1 minuto.
- La temperatura di cottura viene regolata di 5 °C per ogni giro della manopola di controllo.
- Se si regolano o modificano i parametri di tempo nel programma di cottura delle ricette, quando la temperatura di cottura è compresa tra 80 °C e 220 °C, il tempo di cottura regolabile è ≤ 1 ora; quando la temperatura di cottura è < 80 °C, il tempo di cottura regolabile è ≤ 24 ore.

4. Cottura programmata

- Premere la manopola di controllo per selezionare la funzione di cottura programmata, ruotare la manopola di controllo per selezionare la ricetta programmata, quindi impostare il tempo di cottura e l'ora programmata. La friggitrice ad aria inizierà automaticamente la cottura al momento giusto per garantire che la cottura sia completata all'ora programmata, quindi entrerà nello stato di Mantenimento del calore o terminerà la cottura una volta terminata.

Note:

1. Il tempo della programmazione deve essere superiore al tempo di cottura, ma inferiore a 24 ore.
2. L'ora programmata è l'ora di completamento prevista. Ad esempio, se lo schermo visualizza 02:40, significa che la cottura sarà completata entro 2 ore e 40 minuti.
3. La funzione di cottura programmata non è supportata nelle modalità yogurt, frutta secca e scongelamento.

5. Funzione di mantenimento del calore

- La funzione di mantenimento del calore è un'impostazione predefinita. È possibile disattivarla nelle impostazioni.
- Il tempo di mantenimento del calore è di 30 minuti, mentre la temperatura di mantenimento del calore è di 80 °C. Il mantenimento del calore e la relativa tempistica vengono sospesi se si estrae il cestello. Se si reinserisce il cestello entro 3 minuti, il mantenimento del calore continuerà con le impostazioni di tempo mantenute. Se il cestello non viene riposto entro 3 minuti, l'operazione di mantenimento del calore termina e la friggitrice ad aria torna alla schermata iniziale della ricetta corrispondente.

ATTENZIONE: quando il mantenimento del calore è attivo e la temperatura di cottura è impostata su ≥ 80 °C, l'operazione di mantenimento del calore verrà eseguita al termine della cottura. Altrimenti, la friggitrice ad aria terminerà direttamente la cottura entrando nella schermata di cottura completata.

6. Pausa/annullamento della cottura

- Quando la friggitrice ad aria è in modalità di cottura, premere la manopola di controllo per mettere in pausa la cottura. Quando la friggitrice ad aria è in cottura o in pausa, tenere premuta la manopola di controllo per un secondo per accedere alla schermata di annullamento della cottura. Selezionare Sì per annullare la cottura e accedere alla schermata della modalità manuale.

ATTENZIONE: durante la cottura, è possibile ruotare la manopola di controllo per regolare i parametri di temperatura e tempo. I numeri corrispondenti lampeggiano durante la regolazione. Al termine della regolazione, premere la manopola di controllo per confermare i nuovi parametri.

7. Modalità ricetta cloud

- Se si seleziona ed esegue una ricetta cloud con l'app Mi Home/Xiaomi Home, la friggitrice ad aria cucinerà automaticamente secondo la ricetta. Dopo la cottura, la friggitrice ad aria entrerà nella schermata della modalità manuale.

Note: 1. Quando si eseguono le ricette cloud, è possibile selezionare la funzione di cottura programmata.

2. Non è possibile eseguire le ricette cloud nelle seguenti situazioni:

- 1) La friggitrice ad aria o il suo display sono spenti.
- 2) Non c'è connessione Wi-Fi.
- 3) La friggitrice ad aria sta cuocendo, mantenimento del calore o in modalità di programmazione.
- 4) Il cestello è stato estratto.

8. Messaggio di errore

- Quando la friggitrice ad aria rileva un errore, il display visualizza "E1" o "E2" e la friggitrice emette tre brevi segnali acustici.

Pulizia e manutenzione

Prima di procedere, scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire ed effettuare manutenzione sulla friggitrice ad aria, aspettare che si raffreddi fino a una temperatura sicura. Quando si pulisce la friggitrice ad aria, rimuovere il cestello dalla friggitrice ad aria.

- Superficie della friggitrice ad aria:
la superficie della friggitrice ad aria può essere pulita con un panno asciutto e morbido o con una spugna inumidita con detergente neutro.
- Interno:
per rimuovere le macchie all'interno della friggitrice ad aria, applicare una quantità adatta di detergente diluito con acqua calda sulla sua superficie e lasciare riposare per circa 10 minuti, quindi usare una spugna morbida inumidita con acqua per pulire i residui di detergente.
- Cestello:
pulire la friggitrice ad aria dopo ogni uso. Il cestello della friggitrice ad aria è rivestito, dunque non usare spugne metalliche o altri materiali abrasivi per pulirlo, in quanto potrebbe danneggiarne il rivestimento.
- Piastra e griglia:
per la pulizia, è possibile usare un panno di cotone morbido o una spugna inumidita con un detergente neutro, quindi inumidire con acqua per eliminare i residui di detergente.

Nota: la piastra e la griglia possono essere separate e messe in lavastoviglie per la pulizia; il cestello può essere lavato in acqua e in lavastoviglie; la friggitrice ad aria, invece, non può essere né lavata in acqua né in lavastoviglie.

Precauzioni per la pulizia

1. Dopo aver utilizzato la friggitrice ad aria, si prega di staccare la spina di alimentazione in tempo e non mettere la friggitrice ad aria vicino ad una fonte di calore né immergerla in acqua. Non mettere la spina di alimentazione direttamente sulla friggitrice ad aria per evitare che la spina graffi la sua superficie.
2. La pulizia e la manutenzione devono essere effettuate solo dopo che la friggitrice ad aria si è raffreddata.
3. Non utilizzare prodotti o detersivi per la pulizia corrosivi o abrasivi.

Nota: la pulizia e la manutenzione regolari della friggitrice ad aria contribuiranno a prolungare la sua durata.

Suggerimenti per la manutenzione


- La friggitrice ad aria deve essere riparata solo da tecnici professionalmente addestrati e qualificati.
- Al fine di evitare gravi conseguenze, la friggitrice ad aria non può essere riparata da chi non possiede alcuna autorizzazione.
- Quando la friggitrice ad aria funziona in maniera anomala, prima di contattare il servizio post-vendita, si prega di fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi.
- Se non si riesce a risolvere il problema, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il servizio post-vendita.

Risoluzione dei problemi

Problema	Cause possibili	Soluzioni
La friggitrice ad aria non funziona.	La friggitrice ad aria non è collegata ad un'alimentazione elettrica.	Inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica con messa a terra.
	Il cestello non è in posizione.	Estrarre il cestello e reinserirlo al suo posto.
Il display visualizza E1.	Il sensore ha un circuito interrotto.	Contattare il team del servizio post-vendita.
Il display visualizza E2.	Il sensore è in cortocircuito.	Contattare il team del servizio post-vendita.
La ventola non ruota.	La lama della ventola è bloccata.	Contattare il team del servizio post-vendita.
	Il motore è danneggiato o altri componenti hanno un circuito interrotto.	Contattare il team del servizio post-vendita.
Esce fumo bianco.	Cottura di ingredienti oleosi.	Quando si friggono ingredienti che contengono più grassi, ci sarà molto fumo, il che è normale.
	La friggitrice ad aria contiene ancora residui di grasso del precedente programma di cottura.	Assicurarsi di pulire la friggitrice ad aria dopo ogni programma di cottura.
Impossibilità ad inserire il cestello nella friggitrice ad aria in maniera agevole.	Troppi ingredienti nel cestello.	Gli ingredienti nel cestello non possono superare il segno di quantità massima.
	Il cestello non è inserito correttamente.	Inserire correttamente il cestello.
La funzione di cottura programmata non funziona come richiesto.	Il tempo previsto è troppo breve.	Il tempo programmato deve essere maggiore del tempo di cottura.
	L'orario programmato non viene salvato.	Il tempo programmato viene salvato ed eseguito premendo la manopola di controllo.
Impossibile collegarsi al Wi-Fi.	L'app Mi Home/Xiaomi Home non è aggiornata all'ultima versione.	Aggiornare l'app Mi Home/Xiaomi Home all'ultima versione.
	Il segnale Wi-Fi è debole.	Spostarsi in un luogo dove il segnale è abbastanza forte.
Impossibile collegare la friggitrice ad aria.	Impossibile collegarsi al Wi-Fi.	Controllare se il Wi-Fi è collegato normalmente o resettare il Wi-Fi per riconnettersi.

Schema elettrico

- ① Display LCD
- ② Interruttore di sicurezza
- ③ Pannello di controllo
- ④ Elemento riscaldante
- ⑤ Fusibile
- ⑥ Motore
- ⑦ Fusibile
- ⑧ Scheda di alimentazione



Specifiche tecniche

Nome: Forno (Friggitrice ad aria)	Capacità: 6,5 L	Colore: nero
Modello: MAF10	Frequenza nominale: 50–60 Hz	Peso netto: 5,4 kg
Potenza nominale: 1800 W	Tensione nominale: 220–240 V~	Peso lordo: 6,5 kg
Potenza in uscita massima: <20 dBm	Dimensioni della confezione: 425 × 330 × 355 mm	
Temperatura di esercizio: da -10 °C a 40 °C	Frequenza d'esercizio: 2412–2472 MHz	
Connettività wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		

In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza minima di 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.



Con la presente, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo Forno (Friggitrice ad aria) MAF10 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo www.mi.com/global/service/userguide



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Scatola	Manuale	Pellicola	Neto	Borsa	Maniglia
PAP 20	PAP 22	EPE 7	PS 6	LDPE 4	PP 5
Carta	Carta	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.

Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabbricato da: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(un'azienda del Mi Ecosystem)
Indirizzo: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Versione manuale utente: V1.0

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Merci d'avoir choisi Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L. Ce produit est réservé à un usage domestique. Les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

Consignes relatives à la sécurité


- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou sensibilisés à l'utilisation de manière sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par un enfant, sauf si ce dernier est âgé d'au moins 8 ans et fait l'objet d'une surveillance.
- Veuillez conserver la friteuse à air et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Pour un usage domestique uniquement.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé ou cassé, vous devez le remplacer auprès du fabricant ou de son service d'après-vente, afin d'éviter des accidents liés à la sécurité.
- La température de la surface palpable peut s'élever pendant que la friteuse à air est en fonctionnement.
- La surface chauffera facilement lorsque la friteuse à air est en fonctionnement.
- La friteuse à air ne peut pas être mise en fonctionnement à travers un minuteur externe ou une télécommande indépendante.
- Ne pas bloquer l'entrée d'air et la sortie d'air de la friteuse à air, ni les événements de dissipation de chaleur pendant l'utilisation, pour ne pas affecter la dissipation normale de la chaleur.
- Aucun technicien amateur ne doit modifier le câblage interne de la friteuse à air.
- Ne pas utiliser de charbon ou d'autres sources de chaleur similaires pour chauffer le panier, la plaque de friture ou le gril.
- Ne pas placer le panier sur une autre source de chaleur quelconque, telle qu'une cuisinière à induction ou une cuisinière à gaz.

- Ne pas brancher ni débrancher le cordon d'alimentation avec des mains humides, afin d'éviter le risque de décharge électrique.
- Ne pas utiliser un cordon d'alimentation offrant une connexion flasque ou un mauvais contact.
- Ne pas laisser passer le cordon d'alimentation à travers des objets tranchants, afin d'éviter de l'endommager.
- Ne pas utiliser la friteuse à air pour conserver des articles, surtout des articles inflammables, explosifs ou corrosifs.
- Ne pas pincer, tordre ou recourber à l'excès le cordon d'alimentation, ou placer des objets lourds dessus, afin d'éviter d'exposer ou de casser son noyau.
- Cesser immédiatement d'utiliser la friteuse à air et la débrancher de la source d'énergie si elle ne fonctionne pas normalement ou si elle présente des dysfonctionnements.
- La friteuse à air ne peut pas être mise en fonctionnement sans que le panier ne soit en place.
- Ne pas toucher le panier directement avec vos mains pendant ou tout juste après l'utilisation de la friteuse à air, afin d'éviter de se faire échauder.
- Ne pas permettre aux enfants de se rapprocher ni de jouer avec le film plastique et l'emballage, afin d'éviter des accidents par suffocation.
- Ne pas utiliser des ustensiles plastiques ou du matériau d'emballage en papier ordinaire pour emballer les aliments pour la cuisson.
- Ne pas laisser tomber la friteuse à air ou la cogner contre des objets aux surfaces dures, afin d'éviter des dommages ou des dysfonctionnements.
- Ne pas insérer des épingles, câbles ni d'autres objets dans aucune des ouvertures de la friteuse à air, afin d'éviter une décharge électrique ou des blessures.
- Ne pas utiliser un quelconque accessoire qui ne soit recommandé par le fabricant.
- La plage d'altitude de fonctionnement normal de ce produit est comprise entre 0 à 2000 mètres.
- Respecter une distance d'au moins 30 cm ou plus entre la sortie d'air et d'autres appareils pendant l'utilisation.
- Ne pas déplacer ou secouer la friteuse à air pendant son utilisation.
- Ne pas insérer un quelconque objet étranger dans le commutateur de sécurité, afin d'éviter tout danger.

- Pendant le placement de la friteuse à air dans un placard de cuisine, etc., veuillez-vous assurer que le réceptacle est bien aéré.
- Veuillez-vous assurer que la friteuse à air est débranchée avant de la nettoyer ou de la réparer.
- Ce produit doit être utilisé sur une surface plane, résistante à la chaleur, afin d'éviter d'endommager le produit ou de créer des accidents.
- S'assurer que les parties en silicone de la friteuse à air n'entrent pas en contact avec de l'éthanol ou des solutions qui contiennent de l'alcool à plus de 50 %.
- Veuillez-vous assurer que la prise électrique à laquelle la friteuse à air est branchée est bien mise à la terre, afin d'éviter une décharge électrique ou d'autres accidents liés à la sécurité.

ATTENTION : Surfaces chaudes.

Présentation du produit



- Remarques : 1. Le caoutchouc en silicone utilisé dans la plaque de friture est fait de matériaux en contact avec les aliments hautement résistants à la température pour empêcher que les bords de la plaque de friture ne grattent le revêtement du panier et d'améliorer la stabilité de la plaque de friture. Ne pas enlever le caoutchouc en silicone de la plaque de friture.
2. Les ingrédients qui sont trop infimes ne sont pas appropriés à utiliser sur le gril. Veuillez-vous assurer que les ingrédients ne tombent pas entre les espaces du gril.

Poignée de commande



- 1 Appuyer pour confirmer la sélection.



- 2 Appuyer et maintenir enfoncé pendant 1 seconde pour revenir au menu précédent.



- 3 Tourner à gauche/à droite pour changer les fonctions.



- 4 Appuyer le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre.

Utilisation

Brancher le cordon d'alimentation et appuyer le bouton d'alimentation pour mettre la friteuse à air sous tension.

- Remarques : 1. Lorsque la friteuse à air est allumée pour la toute première fois, appuyez le bouton d'alimentation et rendez-vous à l'écran de sélection de la langue, tournez la poignée de commande à la langue souhaitée, puis appuyez la poignée de commande pour confirmer la sélection.
2. La friteuse à air peut dégager une légère odeur à la toute première utilisation. Il est recommandé de faire fonctionner la friteuse à air avec un panier vide à une température maximale (220 °C) pendant cinq minutes pour éliminer l'odeur. La friteuse à air peut émettre une infime quantité de fumée blanche ou une odeur pendant qu'elle fonctionne avec un panier vide, ce qui est normal.

Mise en marche

Brancher le cordon d'alimentation et appuyer le bouton d'alimentation pour mettre la friteuse à air sous tension.

Mise à l'arrêt

Appuyer le bouton d'alimentation pour mettre la friteuse à air hors tension, indépendamment de l'état dans lequel elle se trouve.



Configuration du Wi-Fi





Réinitialisation du Wi-Fi :

Appuyer la poignée de commande pour entrer le paramètre « Réinitialiser le Wi-Fi » une fois dans l'écran « Wi-Fi », puis appuyer la poignée de commande pour sélectionner Oui pour réinitialiser le Wi-Fi, ou tourner la poignée de commande pour sélectionner Non pour renoncer à la réinitialisation du Wi-Fi.

Activation/désactivation du Wi-Fi :

Appuyer la poignée de commande pour entrer le paramètre « Activer le/Désactiver le Wi-Fi ? » une fois dans l'écran « Wi-Fi », puis appuyer la poignée de commande pour sélectionner Oui pour activer ou désactiver le Wi-Fi, ou tourner la poignée de commande pour sélectionner Non pour renoncer au changement.

Voyant de statut du Wi-Fi

			
En attente de la connexion rapide...	Reconnexion en cours après une déconnexion...	Connexion réussie	Mise à jour en cours...
Le voyant du Wi-Fi clignote lentement	Le voyant du Wi-Fi clignote rapidement	L'indicateur Wi-Fi est allumé	Le voyant du Wi-Fi clignote rapidement

Remarque : Le voyant du Wi-Fi va s'éteindre si l'appareil n'est pas connecté au Wi-Fi au bout de 30 minutes.

Mise à jour du micrologiciel

Lorsque vous mettez à jour du micrologiciel à travers l'application Mi Home/Xiaomi Home, l'écran affichera que la mise à jour est en cours et la friteuse à air redémarrera automatiquement lorsque la mise à jour sera terminée.

Remarque : L'application Mi Home/Xiaomi Home sera en mesure de mettre à jour le micrologiciel à moins que la friteuse à air ou son écran soit éteint ou que le Wi-Fi soit déconnecté. D'autres opérations ne peuvent être effectuées lorsque la mise à jour du micrologiciel est en cours.

Connexion avec l'application Mi Home/Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Mi Home/Xiaomi Home*. Contrôlez votre appareil avec l'application Mi Home/Xiaomi Home.



67CE8213

- Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Vous serez redirigé vers la page de configuration si l'application est déjà installée. Sinon, recherchez « Mi Home/Xiaomi Home » dans l'App Store pour la télécharger et l'installer.
- Ouvrez l'application Mi Home/Xiaomi Home, touchez l'icône « + » en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.

* Cette application est appelée l'application Xiaomi Home en Europe (sauf en Russie). Le nom de l'application qui s'affiche sur votre appareil devrait être utilisé comme nom par défaut.

Remarque : la version de l'application a été mise à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l'application.

Cuisson

Préparations

Les ingrédients peuvent être marinés pour être goûtés avant la cuisson.

Démarrage d'un programme de cuisson

1. Placer la friteuse à air sur une surface stable plane et s'assurer qu'il y a de l'air en circulation autour de la friteuse à air.

2. Placer la plaque de friture dans le panier et ajouter des ingrédients un à un. S'il y a plus d'ingrédients, utiliser le gril pour les placer en couches.

Remarque : Empiler les ingrédients sans utiliser le gril affectera la cuisson.

3. Lorsque le panier est entièrement poussé à l'intérieur de la friteuse à air, tourner et appuyer la poignée de commande pour sélectionner le mode manuel ou la recette configurée d'avance (yaourt, ailes de poulets, frites, etc.), tourner et appuyer la poignée de commande pour configurer le mode (grillade craquante/dégraissage, prises en charge par certaines recettes), quantités d'ingrédients (couche unique/couche double) température et durée, et appuyer la poignée de commande pour démarrer le programme de cuisson et le compte à rebours de la durée de cuisson. Pour un programme de cuisson programmé, la friteuse à air commencera automatiquement la cuisson à un moment approprié pour garantir que la cuisson est terminée à une durée programmée.

Remarques :

1. La durée et la température de cuisson peuvent être réglées en tournant la poignée de commande lors de la cuisson, sauf lors de la cuisson du yaourt. Lors de la cuisson en mode dégraissage, vous pouvez uniquement régler la durée de cuisson, non pas la température de cuisson.

2. Dès que vous tournez la poignée de commande pour régler la durée ou la température de cuisson, vous devez appuyer la poignée de commande pour confirmer, sinon, la friteuse à air poursuivra la cuisson conformément à la durée et à la température définies au préalable après cinq secondes.

3. Vous ne pouvez pas changer la recette pendant la cuisson.

4. Il n'est pas nécessaire de retourner les ingrédients pendant la cuisson (sauf si vous préparez les frites) Lorsque vous avez sélectionné plus de 500 g de frites, il sera émis un message vous indiquant de retourner les ingrédients à mi-parcours. Respectez le message pour sortir le panier pour retourner les ingrédients, puis remettez entièrement en place le panier dans la friteuse à air et appuyez la poignée de commande pour poursuivre la cuisson.

5. La friteuse à air émettra un bip et le message « Terminé » apparaîtra sur l'écran pour indiquer que le programme de cuisson est terminé (pour certaines recettes, la friteuse à air entrera en état de maintien au chaud et affichera « Maintien au chaud en cours.. »). Sortir soigneusement le panier et utiliser des pinces de préhension pour retirer les aliments.

ATTENTION : Le panier est très chaud au terme de la cuisson. Alors, il ne faut pas le toucher, afin d'éviter de se faire échauder.

Autres fonctionnements

1. Réglages de la langue

- Allumez la friteuse à air, accédez aux paramètres, puis appuyez sur le bouton de commande pour entrer l'écran de sélection de la langue.
- Tournez la poignée de commande vers la langue souhaitée et l'appuyez pour confirmer.

2. Mode manuel

- Lorsque la friteuse à air est allumée, appuyez la poignée de commande pour entrer le mode manuel, puis tournez la poignée de commande à la température de cuisson souhaitée, appuyez la poignée de commande pour paramétrer la durée et tournez la poignée de commande à la durée de cuisson souhaitée, puis finalement appuyez la poignée de commande pour démarrer le programme de cuisson manuel.

3. Réglage de la température/durée

- La température peut être réglée entre 40 °C et 220 °C. La durée peut être réglée entre 0–24 heures.
- Lors du réglage de la durée de cuisson ou à l'achèvement de la durée programmée, faites attention à la vitesse à laquelle vous tournez la poignée de commande. Lorsque la plage de temps réglée est ≥ 60 minutes, tourner rapidement la poignée de commande réglera la durée de 60 minutes, tandis que tourner la poignée de commande lentement réglera la durée de 1 minute. Lorsque la plage de temps réglée est < 60 minutes, tourner rapidement la poignée de commande réglera la durée de 10 minutes, tandis que tourner la poignée de commande lentement réglera la durée de 1 minute.
- La température de cuisson est réglée de 5 °C à chaque tour de la poignée de commande.
- Si vous réglez ou modifiez les paramètres de durée dans le programme de recette, lorsque la température de cuisson est comprise entre 80 °C et 220 °C, la durée de cuisson réglable est ≤ 1 heure ; lorsque la température de cuisson est < 80 °C, la durée de cuisson réglable est ≤ 24 heures.

4. Cuisson programmée

- Appuyez la poignée de commande pour sélectionner la fonction de programmation, tournez la poignée de commande pour sélectionner la recette programmée, puis paramétrez la durée de cuisson et la durée programmée. La friteuse à air démarrera automatiquement la cuisson au moment approprié pour garantir que la cuisson se termine à la durée programmée, puis entrera en état de maintien au chaud ou mettra fin à la cuisson une fois terminée.

Remarques :

1. La durée programmée doit être supérieure à la durée de cuisson, mais inférieure à 24 heures.
2. La durée programmée ici est la durée de fin programmée. Par exemple, lorsque l'écran affiche 02:40, cela signifie que la cuisson s'achèvera au bout de 2 heures et 40 minutes.
3. La fonction de programmation n'est pas prise en charge dans les modes yaourt, fruits secs et dégel.

5. Fonction de maintien au chaud

- La fonction de maintien au chaud est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver dans les paramètres.
- La durée de maintien au chaud est de 30 minutes, tandis que la température de maintien au chaud est de 80 °C. Le maintien au chaud et sa durée seront suspendus si le panier est retiré. Si vous remettez le panier dans un intervalle de 3 minutes, le maintien au chaud se poursuivra aux paramètres de durée retenus. Si le panier n'est pas remis au bout de 3 minutes, le maintien au chaud prendra fin et la friteuse à air retournera à l'écran d'accueil de la recette correspondante.

ATTENTION : Lorsque le maintien au chaud est activé et que la température de cuisson est paramétrée ≥ 80 °C, le fonctionnement du maintien au chaud s'effectuera après l'achèvement de la cuisson. Sinon, la friteuse à air mettra directement fin à la cuisson en entrant l'écran cuisson terminée.

6. Arrêt momentané/annulation de la cuisson

- Lorsque la friteuse à air est en mode cuisson, appuyez la poignée de commande pour arrêter momentanément la cuisson. Lorsque la friteuse à air effectue la cuisson ou est arrêté momentanément, maintenir enfoncée la poignée de commande pendant une seconde pour entrer l'écran d'annulation de la cuisson. Sélectionnez Oui pour annuler la cuisson et entrez l'écran du mode manuel.

ATTENTION : Pendant la cuisson, vous pouvez tourner la poignée de commande pour régler les paramètres de température et de durée. Les chiffres correspondants clignoteront pendant le réglage. Une fois le réglage terminé, appuyez la poignée de commande pour confirmer les nouveaux paramètres.

7. Mode recette du Cloud

- Si vous sélectionnez et exécutez une recette du Cloud avec l'application Mi Home/Xiaomi Home, la friteuse à air effectuera automatiquement la cuisson selon la recette. Après la cuisson, la friteuse à air entrera l'écran du mode manuel

Remarques: 1. Lors de l'exécution des recettes du Cloud, vous pouvez sélectionner la fonction de programmation.

2. Vous ne pouvez pas exécuter les recettes du Cloud dans les situations suivantes :

- 1) La friteuse à air ou son écran est éteint. 2) Il n'y a pas de connexion Wi-Fi. 3) La friteuse à air effectue la cuisson, maintient au chaud ou est en mode programmé. 4) Le panier a été sorti.

8. Message d'erreur

- Lorsque la friteuse à air détecte une erreur, l'écran montrera « E1 » ou « E2 » et la friteuse à air émettra trois bips courts.

Nettoyage et entretien

Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer et de faire l'entretien de la friteuse à air, et attendre qu'elle se refroidisse à une température sécurisée avant de continuer. Veuillez retirer le panier de la friteuse à air lors du nettoyage de la friteuse à air.

- Surface de la friteuse à air :

La surface de la friteuse à air peut être nettoyée à l'aide d'un tissu doux sec ou d'une éponge mouillée avec un détergent de nettoyage neutre.

- Cavité :

Pour enlever les tâches à l'intérieur de la friteuse à air, appliquer une quantité suffisante de détergent dilué dans de l'eau chaude sur sa surface, laisser la solution s'imprégner pendant 10 minutes, puis utiliser une éponge douce mouillée avec de l'eau pour nettoyer les résidus de détergent.

- Panier :

Nettoyer la friteuse à air après chaque utilisation. Le panier de la friteuse à air est revêtu. Alors, il ne faut pas utiliser de la laine d'acier ou tout autre matériel de nettoyage abrasif pour le nettoyer, car ces produits peuvent endommager le revêtement.

- Plaque de friture et gril :

Vous pouvez utiliser un tissu en coton doux ou une éponge mouillée avec du détergent neutre pour nettoyer, puis mouiller ces parties avec de l'eau pour nettoyer les résidus de détergent.

Remarque : La plaque de friture et le gril peuvent être séparés et placés dans le lave-vaisselle pour le nettoyage. Le panier peut être lavé à l'eau, et peut être lavé dans le lave-vaisselle. Toutefois, la friteuse à air ne peut être ni lavée dans de l'eau ni nettoyée dans le lave-vaisselle.

Précautions de nettoyage

1. Après l'utilisation de la friteuse à air, veuillez débrancher la prise d'alimentation à temps. Ne pas placer la friteuse à air près d'une source de flamme ni l'immerger dans de l'eau. Ne pas placer la prise d'alimentation directement sur la friteuse à air, afin d'empêcher que la surface de la fiche se gratte.
2. Le nettoyage et l'entretien doivent uniquement être effectués au terme du refroidissement complet de la friteuse à air.
3. Ne pas utiliser un quelconque matériel de nettoyage corrosif ou abrasif ni de détergent.

Remarque : Le nettoyage et l'entretien réguliers de la friteuse à air permettront d'étendre sa durée de vie.

Astuces d'entretien


- Seuls les techniciens qualifiés et ayant reçu une formation professionnelle en la matière doivent réparer la friteuse à air.
- D'autres personnes ne doivent pas réparer la friteuse à air sans permission, afin d'éviter de conséquences graves.
- Lorsque la friteuse à air se comporte de façon anormale, veuillez consulter la partie Dépannage avant de contacter l'équipe du service après-vente.
- Au cas où l'anomalie ne peut être réparée, veuillez débrancher le cordon d'alimentation et le déconnecter, puis contacter l'équipe du service après-vente.

Dépannage

Problème	Causes possibles	Solutions
La friteuse à air ne fonctionne pas.	La friteuse à air n'est pas branchée à une source d'alimentation électrique.	Brancher le cordon d'alimentation dans une prise électrique mise à la terre.
	Le panier n'est pas mis en place.	Retirer le panier et le remettre en place.
L'écran affiche E1.	Le détecteur a un circuit brisé.	Contactez l'équipe du service après-vente.
L'écran affiche E2.	Le détecteur a un court-circuit.	Contactez l'équipe du service après-vente.
Le ventilateur ne tourne pas.	La pale du ventilateur est bloquée.	Contactez l'équipe du service après-vente.
	Le moteur est endommagé ou d'autres composantes ont un circuit brisé.	Contactez l'équipe du service après-vente.
De la fumée blanche s'échappe.	Cuisson des ingrédients huileux.	Lorsque vous faites la friture des ingrédients contenant de la matière grasse, il y'aura beaucoup de fumée, ce qui est tout à fait normal.
	La friteuse à air contient des résidus de graisse du programme de cuisson précédent.	Rassurez-vous de nettoyer la friteuse à air après chaque programme de cuisson.
Impossible d'insérer aisément le panier dans la friteuse à air.	Le panier contient beaucoup trop d'ingrédients.	Les ingrédients dans le panier ne doivent pas dépasser la marque de limite maximale.
	Le panier n'est pas correctement inséré.	Insérer correctement le panier.
La fonction de programmation ne fonctionne pas comme il se doit.	La durée programmée est trop courte.	La durée programmée est plus longue que la durée de cuisson.
	La durée programmée n'est pas sauvegardée.	La durée programmée devrait être sauvegardée et appliquée en appuyant la poignée de commande.
Impossible de connecter le Wi-Fi.	L'application Mi Home/Xiaomi Home n'est pas à la toute dernière version.	Mettre à jour l'application Mi Home/Xiaomi Home à la toute dernière version.
	Le signal Wi-Fi est faible.	Se déplacer à un lieu où le signal est suffisamment fort.
Impossible de connecter la friteuse à air.	Impossible de connecter le Wi-Fi.	Vérifier que le Wi-Fi est normalement connecté ou réinitialiser le Wi-Fi pour reconnecter.

Diagramme électrique

- ① Écran LCD
- ② Commutateur de sécurité
- ③ Panneau de contrôle
- ④ Élément chauffant
- ⑤ Fusible
- ⑥ Moteur
- ⑦ Fusible
- ⑧ Panneau d'alimentation



Caractéristiques

Nom : Four (Friteuse à air)	Capacité : 6,5 L	Couleur : noir
Modèle : MAF10	Fréquence nominale : 50–60 Hz	Poids net : 5,4 kg
Puissance nominale : 1800 W	Tension nominale : 220–240 V~	Poids brut : 6,5 kg
Puissance maximale en sortie : <20 dBm	Dimensions de l'emballage : 425 × 330 × 355 mm	
Température de fonctionnement : -10 °C à 40 °C	Fréquence de fonctionnement : 2412–2472 MHz	

Connectivité sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.



Par la présente, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type Four (Friteuse à air) MAF10 est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
 Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site www.mi.com/global/service/userguide



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI

FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
 Fabricant : Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
 (une société Mi Ecosystem)

Adresse : No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
 Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
 Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com

Version du manuel d'utilisation : V1.0

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Благодарим вас за выбор аэрогриля Xiaomi Smart Air fryer 6.5L. Данное изделие предназначено только для бытового использования.

Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Инструкции по безопасности

- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному пользованию устройством и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства могут проводить дети старше 8 лет только в том случае, если они находятся под присмотром.
- Держите аэрогриль и шнур питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Только для бытового использования.
- Если шнур питания поврежден или сломан, он должен быть заменен производителем или службой гарантийного обслуживания во избежание угрозы безопасности.
- Температура доступной поверхности может повышаться во время работы аэрогриля.
- Во время использования аэрогриля поверхность будет быстро нагреваться.
- Не допускается управление аэрогриля с помощью внешнего таймера или отдельного пульта дистанционного управления.
- Не перекрывайте предусмотренные в аэрогриле впускное и выходное отверстия для воздуха, а также вентиляционные отверстия для отвода тепла во время его использования. В противном случае это повлияет на нормальный отвод тепла.
- Запрещается модификация внутренней проводки аэрогриля силами неподготовленных специалистов.
- Запрещается использовать древесный уголь или другие аналогичные виды топлива для нагрева корзины, противня для жарки или решетки для гриля.
- Не помещайте корзину на какие-либо другие источники тепла, такие как индукционная плита или газовая плита.


- Не подсоединяйте и не отсоединяйте шнур питания мокрыми руками во избежание риска поражения электрическим током.
- Не используйте шнур питания с ослабленным соединением или плохим контактом.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не пересекал острых предметов во избежание его повреждения.
- Не используйте аэрогриль для хранения каких-либо предметов, особенно легковоспламеняющихся, взрывоопасных или едких веществ.
- Не следует излишне пережимать, сгибать или скручивать шнур питания, а также ставить на него тяжелые предметы, чтобы не обнажить и не повредить его проводку.
- Немедленно прекратите использование аэрогриля и отсоедините его от источника питания, если его нормальное функционирование нарушено или в нем обнаружены технические неисправности.
- Без установленной на место корзины аэрогриль не может быть активирован.
- Не касайтесь корзины руками во время или сразу после использования во избежание ожогов.
- Не позволяйте детям находиться рядом или играть с пищевой пленкой и упаковкой во избежание удушья.
- Не используйте какую-либо пластиковую посуду или обычные бумажные упаковочные материалы для упаковки продуктов для приготовления.
- Не роняйте аэрогриль и не ударяйте его о твердые предметы, чтобы избежать повреждения или неисправности.
- Не вставляйте булавки, провода или другие предметы в отверстия аэрогриля во избежание поражения электрическим током или получения травм.
- Не используйте какие-либо аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Нормальный рабочий диапазон высоты этого изделия составляет 0–2000 метров.
- Во время использования сохраняйте дистанцию не менее 30 см между выходным отверстием для воздуха и другими устройствами.
- Не передвигайте и не встряхивайте аэрогриль во время использования.
- Во избежание опасности не вставляйте посторонние предметы в аварийный выключатель.

- При размещении аэрогриля в кухонном шкафу и т. д. убедитесь, что это хорошо вентилируемое место.
- Перед очисткой или ремонтом аэрогриля обязательно отключите его от сети.
- Данное изделие следует использовать на ровной термостойкой поверхности, чтобы избежать его повреждения и предотвратить несчастные случаи.
- Следите за тем, чтобы силиконовые детали аэрогриля не контактировали с этанолом или растворами, содержащими более 50% спирта.
- Убедитесь, что электрическая розетка, к которой подключен аэрогриль, хорошо заземлена во избежание поражения электрическим током или других угроз безопасности.
- Пожалуйста, избегайте сильных столкновений во время транспортировки.



ВНИМАНИЕ: горячие поверхности.

Описание изделия



- Примечания: 1. Силиконовый каучук на противне для жарки изготовлен из жаропрочных материалов, пригодных для пищевых продуктов, что позволяет предотвратить царапание краями противня для жарки покрытия корзины и повышает устойчивость противня. Не удаляйте силиконовый каучук с противня для жарки.
2. Слишком мелкие ингредиенты не подходят для решетки для гриля. Следите за тем, чтобы ингредиенты не попадали в отверстия решетки для гриля.

Регулятор



Нажмите, чтобы подтвердить выбор.



2 Нажмите и удерживайте в течение одной секунды для возврата в предыдущее меню.



3 Поверните влево/вправо, чтобы изменить функции.



4 Нажмите кнопку питания, чтобы включить/выключить.

Как использовать

Подсоедините шнур питания и нажмите кнопку питания, чтобы включить аэрогриль.

- Примечания: 1. При первом включении аэрогриля нажмите кнопку питания и перейдите к экрану выбора языка, поверните регулятор на нужный язык, затем нажмите на регулятор, чтобы подтвердить выбор.
2. При первом использовании от аэрогриля может идти легкий запах. Чтобы устранить запах, рекомендуется включить аэрогриль с пустой корзиной и оставить его включенным на пять минут при максимальной температуре (220 °C). Во время включения с пустой корзиной от аэрогриля может идти небольшая струя белого дыма или запах. Это нормально.

Включение

Подсоедините шнур питания и нажмите кнопку питания, чтобы включить аэрогриль.

Выключение





Нажмите кнопку питания, чтобы выключить аэрогриль, независимо от того, в каком состоянии он находится.



Настройка Wi-Fi

- Сброс настроек беспроводной сети Wi-Fi:
Нажмите регулятор, чтобы войти в «Сброс Wi-Fi», находясь на экране «Wi-Fi», затем нажмите регулятор, чтобы выбрать «Да» для сброса Wi-Fi, или поверните регулятор, чтобы выбрать «Нет» для отказа от сброса Wi-Fi.
- Включить/отключить Wi-Fi:
Нажмите регулятор, чтобы войти в меню «Включить/отключить Wi-Fi?», находясь на экране «Wi-Fi», затем нажмите регулятор, чтобы выбрать «Да» для включения или отключения Wi-Fi, или поверните регулятор, чтобы выбрать «Нет» для отказа от изменений.

Индикатор статуса Wi-Fi

			
Ожидание быстрого подключения...	Повторное подключение после отключения...	Подключение успешно выполнено	Обновление...
Индикатор Wi-Fi медленно мигает	Индикатор Wi-Fi быстро мигает	Индикатор Wi-Fi горит постоянно	Индикатор Wi-Fi быстро мигает

Примечание: если аэрогриль не подключается к Wi-Fi в течение 30 минут, индикатор Wi-Fi отключится.

Обновление прошивки

Во время обновления прошивки через приложение Mi Home/Xiaomi Home процесс обновления будет отображаться на дисплее. После завершения обновления аэрогриль автоматически перезапустится.

Примечание: вы не сможете обновить прошивку изделия через приложение Mi Home/Xiaomi Home, если аэрогриль или его дисплей выключены, или если Wi-Fi не подключен. Во время обновления прошивки прочие операции недоступны.

Подключение к приложению Mi Home/Xiaomi Home

Продукт работает с приложением Mi Home/Xiaomi Home*. Управляйте своим устройством в приложении Mi Home/Xiaomi Home.



67CE8213

- Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или выполните поиск по запросу «Mi Home/Xiaomi Home» в App Store, чтобы скачать и установить приложение.
- Откройте приложение Mi Home/Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.

* В Европе приложение называется «Xiaomi Home» (кроме России). Название приложения, которое отображается на вашем устройстве, должно быть принято по умолчанию.

Примечание: версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.

Приготовление

Подготовительные операции

Можно замариновать ингредиенты по вкусу перед приготовлением.

Запуск программы готовки

1. Установите аэрогриль на устойчивую ровную поверхность и убедитесь, что вокруг него циркулирует воздух.

2. Поместите противень для жарки в корзину и добавьте ингредиенты по одному. Если ингредиентов слишком много, используйте решетку для гриля, чтобы разместить их в два слоя.

Примечание: укладка ингредиентов без использования решетки для гриля повлияет на готовку.

3. Когда корзина до конца вставлена в аэрогриль, выберите ручной режим или предустановленный рецепт (йогурт, куриные крылышки, картофель фри и т. д.) путем поворота и нажатия регулятора, затем поверните и нажмите регулятор, чтобы задать режим (хрустящая корочка гриль/обезжиривание, поддерживаемое определенными рецептами), количество ингредиентов (один слой/двойной слой), температуру и время, после чего нажмите регулятор, чтобы запустить программу приготовления и обратный отсчет времени приготовления. При выборе программы готовки по расписанию аэрогриль автоматически начнет процесс приготовления и завершит его в заданное время.

Примечания:

1. Время и температуру приготовления можно регулировать, поворачивая регулятор во время приготовления, кроме режима приготовления йогурта. Во время готовки в режиме обезжиривания можно изменить только время готовки, но не температуру.

2. После поворота регулятора с целью изменения времени или температуры приготовления необходимо нажать на регулятор для подтверждения новых значений. В противном случае спустя пять секунд аэрогриль продолжит готовку с начальными параметрами.

3. Во время готовки изменить рецепт нельзя.

4. Во время готовки переворачивать ингредиенты не нужно (если только вы не готовите картошку фри). Если вы выбрали приготовление более 500 г картошки фри, по истечении половины времени, требуемого для завершения процесса готовки, изделие подаст сигнал о необходимости перемешать ингредиенты. После сигнала необходимо достать корзину, чтобы перевернуть ингредиенты, затем вставить корзину обратно в аэрогриль и нажать регулятор для продолжения готовки.

5. После завершения кулинарной программы аэрогриль подаст звуковой сигнал, а на дисплее появится надпись «Завершена» (в некоторых рецептах аэрогриль перейдет в режим подогрева, а на дисплее появится надпись «Поддержание тепла...»). Осторожно извлеките корзину и с помощью щипцов достаньте еду.

ВНИМАНИЕ: по завершении приготовления корзина будет очень горячей, поэтому не прикасайтесь к ней, чтобы не обжечься.

Другие функции

1. Настройки языка

- Включите аэрогриль, перейдите к настройкам и нажмите регулятор для входа в экран выбора языка.
- Поворачивая регулятор, выберите нужный язык и нажмите на регулятор для подтверждения.

2. Ручной режим

- Когда аэрогриль включен, нажмите на регулятор для входа в ручной режим, затем снова нажмите на регулятор, чтобы установить температуру, и поверните его до желаемой температуры приготовления. Нажмите на регулятор, чтобы установить время, и поверните его на желаемое время приготовления и, наконец, нажмите на регулятор, чтобы запустить программу приготовления в ручном режиме.

3. Регулировка температуры/времени

- Температура может быть отрегулирована в диапазоне от 40 °C до 220 °C. Время может быть задано в диапазоне от 0 до 24 часов.
- Когда вы задаете время приготовления или планируемое время завершения готовки, внимательно следите, с какой скоростью вы вращаете регулятор. Если регулируемый диапазон времени ≥ 60 минутам, при быстром повороте регулятора время будет меняться с шагом в 60 минут; если вращать регулятор медленно – время будет меняться с шагом в 1 минуту. Если регулируемый диапазон времени < 60 минут, при быстром повороте регулятора время будет меняться с шагом в 10 минут; если вращать регулятор медленно – время будет меняться с шагом в 1 минуту.
- Температура готовки регулируется с шагом 5 °C при каждом повороте регулятора.
- Когда вы регулируете или меняете временные параметры в программе готовки по рецепту, то если температура готовки находится в диапазоне от 80 °C до 220 °C, регулируемый диапазон времени готовки ≤ 1 часу; если температура готовки < 80 °C, регулируемый диапазон времени готовки ≤ 24 часам.

4. Приготовление по расписанию

- Нажмите регулятор для выбора функцию готовки по расписанию, поверните регулятор, чтобы выбрать заданный рецепт, затем установите продолжительность приготовления и время исполнения программы. Аэрогриль автоматически начнет приготовление в заданное время и гарантированно завершит приготовление в запланированное время, а затем перейдет в режим подогрева или закончит приготовление после завершения программы.

Примечания:

1. Время исполнения программы должно быть больше времени приготовления, но меньше 24 часов.
2. Время исполнения программы здесь соответствует времени завершения по расписанию. Например, если на экране дисплея отображается 02:40, это означает, что процесс приготовления завершится через 2 часа и 40 минут.
3. Функция готовки по расписанию не поддерживается в режиме приготовления йогуртов, высушенных фруктов и в режиме обезжиривания.

5. Функция подогрева

- Функция подогрева включена по умолчанию. Ее можно отключить в настройках.
 - Время подогрева составляет 30 минут при температуре 80 °С. Отсчет времени подогрева приостанавливается при извлечении корзины. Если вставить корзину обратно в течение 3 минут, подогрев возобновится с того же момента времени. Если корзина не будет вставлена обратно в течение 3 минут, режим подогрева отключается, и аэрогриль переключается на начальный экран соответствующего рецепта.
- ВНИМАНИЕ: если функция подогрева включена, а температура готовки ≥ 80 °С, то подогрев включится после завершения готовки. В противном случае аэрогриль завершит готовку и переключится на экран завершения готовки.

6. Постановка на паузу/отмена готовки

- Когда аэрогриль работает в режиме готовки, нажмите на регулятор, чтобы поставить процесс готовки на паузу. Когда аэрогриль работает в режиме готовки или стоит на паузе, нажмите регулятор и удерживайте его в течение одной секунды, чтобы перейти на экран отмены готовки. Выберите «Да» для отмены процесса приготовления еды и перехода на экран ручного режима.
- ВНИМАНИЕ: в процессе приготовления еды при помощи поворота регулятора можно менять параметры температуры и времени. Во время регулировки соответствующие числовые значения будут мигать. После завершения регулировки нажмите на регулятор, чтобы подтвердить выбор новых параметров.

7. Режим рецептов из облака

- Если в приложении Mi Home/Xiaomi Home выбрать и выполнить рецепт из облака, аэрогриль автоматически приготовит блюдо в соответствии с таким рецептом. После завершения готовки аэрогриль перейдет на экран ручного режима.

Примечания: 1. Когда блюдо готовится по рецепту из облака, можно выбрать функцию готовки по расписанию.
2. В следующих ситуациях приготовление блюда по рецепту из облака невозможно:
1) Аэрогриль или его дисплей выключены. 2) Отсутствует Wi-Fi-подключение. 3) Аэрогриль находится в режиме готовки, подогрева или готовки по расписанию. 4) Корзина извлечена.

8. Сообщение об ошибке

- Если в процессе эксплуатации аэрогриля произойдет какая-либо ошибка, на дисплее появится сообщение «E1» или «E2» и прозвучат три коротких сигнала.

Чистка и техническое обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием аэрогриля отсоедините шнур питания и дождитесь, пока изделие остынет до безопасной температуры, прежде чем продолжить. Перед очисткой аэрогриля, пожалуйста, извлеките из него корзину.

- **Поверхность аэрогриля:**

Поверхность аэрогриля можно протирать сухой мягкой тканью или губкой, смоченной нейтральным моющим средством.

- **Углубление:**

Чтобы удалить пятна внутри аэрогриля, нанесите на его поверхность подходящее количество моющего средства, разведенного в горячей воде, и оставьте примерно на 10 минут. Затем используйте мягкую губку, смоченную в воде, чтобы удалить остатки моющего средства.

- **Корзина:**

Очищайте аэрогриль после каждого использования. На корзине аэрогриля есть покрытие, поэтому не используйте для ее очистки металлическую мочалку или другие абразивные чистящие материалы, так как они могут повредить покрытие.

- **Противень для жарки, решетка для гриля:**

Вы можете использовать мягкую хлопчатобумажную ткань или губку, смоченную в нейтральном моющем средстве, чтобы протереть их. Затем смочите водой, чтобы удалить остатки моющего средства.

Примечание: противень для жарки и решетку для гриля можно разделить и поместить в посудомоечную машину для очистки; корзину можно мыть в воде, а также в посудомоечной машине; однако, сам аэрогриль нельзя мыть ни водой, ни в посудомоечной машине.

Меры предосторожности при очистке

1. После использования аэрогриля извлеките сетевую вилку из розетки и не размещайте аэрогриль рядом с источником огня, а также не погружайте его в воду. Не размещайте сетевую вилку непосредственно на аэрогриле, чтобы она не поцарапала поверхность изделия
2. Чистку и техническое обслуживание следует производить только после того, как аэрогриль остыл.
3. Не используйте какие-либо разъедающие или абразивные чистящие средства или детергенты.

Примечание: регулярная чистка и техническое обслуживание аэрогриля помогут продлить срок его службы.

Советы по обслуживанию


- К ремонту аэрогриля допускаются только профессионально обученные и квалифицированные специалисты.
- Остальным лицам не следует ремонтировать аэрогриль без разрешения во избежание серьезных последствий.
- Если аэрогриль работает неисправно, обратитесь к разделу «Устранение неполадок», прежде чем связаться со службой послепродажного обслуживания.
- Если проблема не может быть решена, пожалуйста, отсоедините шнур питания от розетки и от изделия, и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

Устранение неполадок

Проблема	Возможные причины	Решения
Аэрогриль не функционирует.	Аэрогриль не подключен к источнику питания.	Вставьте шнур питания в заземленную электрическую розетку.
	Корзина не установлена на место.	Извлеките корзину и установите ее на место.
На дисплее отображается «E1».	В датчике произошел разрыв цепи.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
На дисплее отображается «E2».	В датчике произошло короткое замыкание.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
Вентилятор не вращается.	Лопасть вентилятора застряла.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
	Мотор поврежден или в других компонентах произошел разрыв цепи.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
Из аэрогриля идет белый дым.	Пытаетесь приготовить продукты с высоким содержанием жира.	Когда вы жарите ингредиенты с большим содержанием жира, образуется много дыма, это нормальное явление.
	В аэрогриле все еще есть остатки жира после предыдущей программы приготовления.	Обязательно очищайте аэрогриль после каждой программы приготовления.
Не удается плавно вставить корзину в аэрогриль.	Слишком много ингредиентов в корзине.	Ингредиенты в корзине не должны превышать максимальной отметки.
	Корзина установлена неправильно.	Правильно установите корзину.
Функция готовки по расписанию не работает согласно запросу.	Установлено слишком короткое время готовки по расписанию.	Заданное время готовки по расписанию должно быть больше времени готовки.
	Время готовки по расписанию не сохраняется.	Заданное время готовки по расписанию сохраняется и выполняется нажатием регулятора.
Невозможно подключить Wi-Fi.	Не актуальная версия приложения Mi Home/Xiaomi Home.	Обновите приложение Mi Home/Xiaomi Home до последней версии.
	Сигнал Wi-Fi слишком слабый.	Переместите изделие в место с достаточно сильным сигналом.
Невозможно подключить аэрогриль.	Не удается подключиться к сети Wi-Fi.	Проверьте, нормально ли подключен Wi-Fi или сбросьте настройки Wi-Fi для переподключения.

Электрическая схема

- ЖК-дисплей
- Аварийный выключатель
- Панель управления
- Нагревательный элемент
- Предохранитель
- Мотор
- Предохранитель
- Блок питания



Технические характеристики

Название: электропечь (аэрогриль)	Объем: 6,5 л	Цвет: черный
Модель: MAF10	Номинальная частота: 50–60 Гц	Вес нетто: 5,4 кг
Номинальная мощность: 1800 Вт	Номинальное напряжение: 220–240 В	Вес брутто: 6,5 кг
Максимальная выходная мощность: <20 дБм	Размеры упаковки: 425 × 330 × 355 мм	Срок службы: 1 год
Рабочая температура: от -10 °С до 40 °С	Рабочая частота: 2412–2472 МГц	
Температура хранения: от -10 °С до 40 °С	Влажность при хранении: 35–75 %	
Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц		

При обычных условиях использования между антенной этого оборудования и пользователем должно сохраняться расстояние не менее 30 см.



Настоящим компания Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования электропечи (аэрогриля) MAF10 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Подробное электронное руководство см. по адресу www.mi.com/global/service/userguide



Все изделия, обозначенные символом отдельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.



Соответствие техническим регламентам:
 TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
 TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
 TP EAЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Изготовитель: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

(компания Экосистемы Mi)

Адрес: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com

Дата изготовления: см. на упаковке

Сделано в Китае

Правила и условия реализации: без ограничений.

Сведения об импортере и контактная информация отдела послепродажного обслуживания указаны на упаковке.

Версия руководства пользователя: V1.0

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura. Obrigado por escolher Fritadeira Inteligente a Ar Xiaomi 6,5L. Este produto destina-se apenas a uso doméstico.

As ilustrações do produto, os acessórios e a interface de utilizador no manual do utilizador são apenas para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.

Instruções de segurança

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, se as mesmas forem corretamente supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não deverão brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças a não ser que estas sejam mais velhas do que 8 anos e supervisionadas.
- Por favor mantenha a fritadeira a ar e o cabo de alimentação longe do alcance de crianças de idade inferior a 8.
- Apenas para uso doméstico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado ou partido, deverá ser substituído pelo fabricante ou a partir do departamento de serviço pós-venda para evitar perigos de segurança.
- A temperatura da superfície palpável poderá subir enquanto a fritadeira a ar estiver a funcionar.
- A superfície irá facilmente aquecer enquanto a fritadeira a ar estiver em uso.
- A fritadeira a ar não deve ser utilizada através de um temporizador externo ou controlo remoto separado.
- Não bloqueie a entrada e saída de ar da fritadeira a ar, nem as ventilações da dissipação de calor durante a sua utilização para evitar afetar a sua dissipação normal de calor.
- Quaisquer técnicos que não sejam treinados profissionalmente não devem modificar a cablagem interna da fritadeira a ar.
- Não utilize carvão ou outro tipo de fontes de combustível semelhantes para aquecer o cesto, a chapa de fritar, ou grelhador.
- Não coloque o cesto em quaisquer outras fontes de calor, como num fogão de indução ou num fogão a gás.


- Não conecte ou desconecte o cabo de alimentação com as mãos molhadas, de forma a evitar o risco de um choque elétrico.
- Não utilize um cabo de alimentação com conexões soltas ou com mau contacto.
- Não deixe o cabo de alimentação passar por objetos afiados, de forma a evitar danificar o cabo de alimentação.
- Não utilize a fritadeira a ar para armazenar quaisquer itens, especialmente itens inflamáveis, explosivos ou corrosivos.
- Não aperte excessivamente, dobre, torça ou coloque objetos pesados em cima do cabo de alimentação, de forma a prevenir a exposição ou quebra do seu núcleo.
- Pare de utilizar a fritadeira a ar imediatamente e desconecte-a da fonte de alimentação se não estiver a funcionar normalmente ou com mau funcionamento.
- A fritadeira a ar não pode ser iniciada sem o cesto estar no seu lugar respetivo.
- Não toque no cesto diretamente com as suas mãos durante ou após a sua utilização, de forma a evitar que se queime.
- Não permita que crianças cheguem perto ou brinquem com o invólucro à volta e com a embalagem, para evitar acidentes via sufocação.
- Não utilize quaisquer utensílios de plástico ou papel de embrulho normal para embrulhar a comida para cozinhar.
- Não deixe cair esta fritadeira a ar ou bata com ela contra objetos duros, de forma a evitar danos ou mau funcionamento.
- Não insira pinos, fios ou outros objetos em quaisquer das aberturas da fritadeira a ar, de forma a evitar um choque elétrico ou ferimento.
- Não utilize quaisquer acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.
- O alcance normal de altitude operacional deste produto é de 0 a 2000 metros.
- Mantenha uma distância de 30 cm ou mais, entre a saída de ar e outros dispositivos, durante a sua utilização.
- Não mova ou agite a fritadeira a ar durante a sua utilização.
- Não insira objetos estranhos no interruptor de segurança, para evitar qualquer tipo de perigo.
- Quando colocar a fritadeira a ar num armário de cozinha, etc., por favor, certifique-se que o sítio é bem ventilado.
- Por favor certifique-se de desconectar a fritadeira a ar antes de a limpar ou reparar.

- Este produto deverá ser utilizado numa superfície nivelada e resistente ao calor, de forma a evitar danificar o produto ou até acidentes.
- Certifique-se que as partes de silicone da fritadeira a ar não entram em contacto com etanol ou soluções que contenham mais de 50% de álcool.
- Certifique-se de que a tomada elétrica à qual a fritadeira a ar está conectada está bem aterrada, de forma a evitar um choque elétrico ou outro tipo de perigos de segurança.



Precaução: Superfícies quentes.

Visão geral do produto



Notas: 1. A borracha de silicone usada na chapa de fritar é feita a partir de materiais de qualidade alimentar resistentes a alta temperatura para prevenir que as bordas da chapa de fritar raspem o revestimento do cesto e para melhorar a estabilidade da chapa de fritar. Não remova a borracha de silicone da chapa de fritar.

2. Ingredientes que sejam demasiados pequenos não são adequados para utilizar no grelhador. Por favor, certifique-se que os ingredientes não caem a partir dos espaços no grelhador.

Manípulo de controlo



1
Prima para confirmar a seleção.



2
Prima e mantenha premido durante 1 segundo para voltar ao menu anterior.



3
Gire para a esquerda/direita para mudar funções.



4
Prima o botão de energia para ligar/desligar.

Como utilizar

Conecte o cabo de alimentação e prima o botão de energia para ligar a fritadeira a ar.

Notas: 1. Quando a fritadeira a ar for ligada pela primeira vez, prima o botão de energia e vá ao ecrã de seleção de linguagem, gire o manípulo de controlo para a linguagem desejada, em seguida prima o manípulo de controlo para confirmar a seleção.

2. A fritadeira a ar pode exalar um pequeno odor na primeira utilização. Recomenda-se usar a fritadeira a ar com um cesto vazio à temperatura máxima (220 °C) durante cinco minutos para remover o odor. A fritadeira a ar pode emitir uma pequena quantidade de fumo branco ou um odor enquanto funciona com um cesto vazio, o que é normal.

Ligar

Conecte o cabo de alimentação e prima o botão de energia para ligar a fritadeira a ar.

Desligar

Prima o botão de energia para desligar a fritadeira a ar, independentemente do estado em que esteja.



Configurar a Wi-Fi





- Reiniciar a Wi-Fi:

Prima o manípulo de controlo para entrar em "Reset Wi-Fi" enquanto estiver no ecrã de "Wi-Fi", depois prima o manípulo de controlo para seleccionar Yes para reiniciar a Wi-Fi, ou gire o manípulo de controlo para seleccionar No para abandonar o reiniciar da Wi-Fi.

- Ativar/Desativar a Wi-Fi:

Prima o manípulo de controlo para entrar em "Enable/Disable Wi-Fi?" enquanto estiver no ecrã da "Wi-Fi", depois prima no manípulo de controlo para seleccionar Yes para ativar ou desativar a Wi-Fi, ou gire o manípulo de controlo para seleccionar No para abandonar a mudança.

Indicador do estado de Wi-Fi

			
À espera de conexão rápida...	A reconectar após uma desconexão...	Ligação efetuada com sucesso	A atualizar...
O indicador de Wi-Fi pisca lentamente	O indicador de Wi-Fi pisca rapidamente	Indicador de Wi-Fi permanece ligado	O indicador de Wi-Fi pisca rapidamente

Nota: Se a fritadeira a ar não conectar ao Wi-Fi durante 30 minutos, o indicador de Wi-Fi irá desligar.

Atualização de firmware

Quando você atualizar o firmware através da aplicação Mi Home/Xiaomi Home, o ecrã mostrará que uma atualização está a decorrer e a fritadeira a ar será reiniciada automaticamente quando a atualização for concluída.

Nota: A aplicação Mi Home/Xiaomi Home poderá atualizar o firmware, a menos que a fritadeira a ar ou o seu ecrã estejam desligados, ou o Wi-Fi esteja desconectado. Outras operações não podem ser executadas quando a atualização de firmware está a decorrer.

Ligar à Aplicação Mi Home/Xiaomi Home

Este produto é compatível com a aplicação Mi Home/Xiaomi Home*. Controle o seu dispositivo com a aplicação Mi Home/Xiaomi Home.



67CE8213

- Leia o código QR para transferir e instalar a aplicação. A página de configuração da ligação será aberta se a aplicação já estiver instalada. Também pode pesquisar "Mi Home/Xiaomi Home" na loja de aplicações para a transferir e instalar.
- Abra a aplicação Mi Home/Xiaomi Home e toque em "+" no canto superior direito. De seguida, siga as instruções para adicionar o dispositivo.

* Na Europa, a aplicação é denominada Xiaomi Home (exceto na Rússia). O nome da aplicação apresentado no seu dispositivo deve ser utilizado como nome predefinido.

Nota: A versão da aplicação pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual da aplicação.

Cozinhar

Preparações

Os ingredientes podem ser marinados a gosto antes de cozinhar.

Começar um programa de cozinha

1. Coloque a fritadeira a ar numa superfície estável, nivelada e certifique-se que existe circulação de ar à volta da fritadeira a ar.

2. Coloque a chapa de fritar no cesto e adicione os ingredientes, um a um. Se houverem mais ingredientes, utilize o grelhador para os colocar em camadas.

Nota: Empilhar ingredientes sem utilizar o grelhador irá afetar a cozedura.

3. Quando o cesto estiver completamente encaixado na fritadeira a ar, rode e pressione o manípulo de controlo para seleccionar o modo manual ou a receita predefinida (iogurte, asas de frango, batatas fritas, etc.), rode e prima o manípulo de controlo para definir o modo (grelhador crocante/desengordurante, suportado por determinadas receitas), quantidade de ingredientes (camada única/camada dupla), temperatura e tempo, e pressione o manípulo de controlo para iniciar o programa de cozedura o e a contagem regressiva do tempo de cozedura. Para um programa de cozedura agendado, a fritadeira a ar começará automaticamente a cozinhar num momento adequado para garantir que a cozedura seja concluída no horário agendado.

Notas:

1. O tempo de cozedura e temperatura podem ser ajustadas ao girar o manípulo de controlo durante a cozedura, exceto para cozinhar iogurte. Ao cozinhar no modo desengordurante, você só pode ajustar o tempo de cozedura, não a temperatura de cozedura.

2. Assim que girar o manípulo de controlo para ajustar o tempo de cozedura ou temperatura, precisa de premir o manípulo de controlo para confirmar, senão a fritadeira a ar irá continuar a cozinhar de acordo com as configurações originais após cinco segundos.

3. Você não pode mudar a receita enquanto cozinha.

4. Os ingredientes não precisam ser virados durante a cozedura (a menos que você esteja a cozinhar batatas fritas). Quando você tiver selecionado mais de 500 g de batatas fritas, haverá um aviso para virar os ingredientes a meio. Siga o aviso para retirar o cesto para virar os ingredientes, depois coloque o cesto completamente de volta na fritadeira a ar e pressione o manípulo de controlo para continuar a cozinhar.

5. A fritadeira a ar emitirá um sinal sonoro e aparecerá "Completed" no ecrã para indicar que o programa de cozedura foi concluído (para algumas receitas, a fritadeira a ar entrará no estado de manter quente e exibirá "Keeping warm..."). Retire o cesto com cuidado e utilize pinças para remover a comida.

Precaução: Quando a cozedura estiver completa, o cesto vai estar muito quente, por isso não lhe toque para evitar queimar-se.

Outras operações

1. Definições de linguagem

Ligue a fritadeira a ar, vá a definições, e prima o manípulo de controlo para entrar no ecrã de seleção de linguagem.

- Rode o manípulo de controlo para a linguagem desejada e prima para confirmar.

2. Modo manual

Quando a fritadeira a ar está ligada, prima o manípulo de controlo para entrar no modo manual, depois rode o manípulo de controlo para a temperatura de cozedura desejada, prima o manípulo de controlo para definir o tempo e vire o manípulo de controlo para o tempo de cozedura desejado, e finalmente prima o manípulo de controlo para começar o programa de cozedura manual.

3. Ajuste de temperatura/tempo

A temperatura pode ser ajustada entre 40 °C e 220 °C. O tempo pode ser ajustado entre 0 a

- Ao ajustar o tempo de cozedura ou o tempo de conclusão agendado, preste atenção à velocidade em que você roda o manípulo de controlo. Quando o intervalo de tempo ajustado é de ≥ 60 minutos, rodar o manípulo de controlo rapidamente ajustará o tempo em 60 minutos, enquanto rodar o manípulo de controlo lentamente ajustará o tempo em 1 minuto. Quando o intervalo de tempo ajustado é de < 60 minutos, rodar o manípulo de controlo rapidamente ajustará o tempo em 10 minutos, enquanto rodar o manípulo de controlo lentamente ajustará o tempo em 1 minuto.
- A temperatura de cozedura é ajustada em 5 °C para cada volta do manípulo de controlo.
- Se você ajustar ou modificar os parâmetros de tempo no programa de cozedura da receita, quando a temperatura de cozedura estiver entre 80 °C e 220 °C, o tempo de cozedura ajustável é de ≤ 1 hora; quando a temperatura de cozedura é de < 80 °C, o tempo de cozedura ajustável é de ≤ 24 horas.

4. Cozinha agendada

- Prima o manípulo de controlo para selecionar a função de agendamento, rode o manípulo de controlo para selecionar a receita agendada e, em seguida, defina o tempo de cozedura e o horário agendado. A fritadeira a ar começará automaticamente a cozinhar num momento adequado para garantir que a cozedura seja concluída no horário agendado, em seguida, entrar no estado de manter quente ou terminar de cozinhar uma vez feito.

1. O tempo agendado deve ser maior do que o tempo de cozedura, mas inferior a 24 horas.

2. A hora agendada aqui é a hora de conclusão agendada. Por exemplo, quando a ecrã exibe 02:40, isso significa que a cozedura será concluída dentro de 2 horas e 40 minutos.

3. A função de agendamento não é suportada nos modos de iogurte, frutas secas e descongelamento.

5. Função manter quente

- A função de manter quente está ativada por defeito. Pode desativá-la nas definições.
- O tempo de manter quente é de 30 minutos, enquanto a temperatura de manter quente é de 80 °C. Manter quente e o seu tempo será suspenso se o cesto for puxado para fora. Se colocar o cesto de volta dentro de 3 minutos, a função manter quente continuará nas definições de tempo retidas. Se o cesto não for colocado de volta dentro de 3 minutos, a função manter quente terminará, e a fritadeira a ar voltará para o ecrã inicial da receita correspondente.

Precaução: Quando a função manter quente está ligada e a temperatura de cozedura estiver definida para ≥ 80 °C, a operação de manter quente será realizada após a cozedura estar concluída. Caso contrário, a fritadeira a ar terminará diretamente de cozinhar, entrando no ecrã de cozedura concluído.

6. Pausar/Cancelar cozedura

- Quando a fritadeira a ar estiver no modo de cozedura, pressione o manípulo de controlo para pausar a cozedura. Quando a fritadeira a ar estiver a cozinhar ou em pausa, mantenha premido o manípulo de controlo durante um segundo para entrar no ecrã de cancelamento de cozedura. Selecione Yes para cancelar a cozedura e entrar no ecrã do modo manual.

Precaução: Durante a cozedura, você pode rodar o manípulo de controlo para ajustar os parâmetros de temperatura e tempo. Os números correspondentes piscarão durante o ajuste. Quando o ajuste estiver concluído, prima o manípulo de controlo para confirmar os novos parâmetros.

7. Modo de receita na nuvem

- Se você selecionar e executar uma receita na nuvem com a aplicação Mi Home/Xiaomi Home, a fritadeira a ar cozinhará automaticamente de acordo com a receita. Após a cozedura, a fritadeira a ar entrará no ecrã do modo manual.

Notas: 1. Ao executar receitas na nuvem, você pode selecionar a função de agendamento.

2. Não é possível executar receitas na nuvem nas seguintes situações:

- 1) A fritadeira a ar ou o seu ecrã estão desligados.
- 2) Não há conexão Wi-Fi.
- 3) A fritadeira a ar está a cozinhar, a manter quente ou num modo agendado.
- 4) O cesto foi retirado.

8. Mensagem de erro

- Quando a fritadeira a ar deteta um erro, o visor mostra "E1" ou "E2", e a fritadeira a ar emite três breves bipes.

Limpeza e manutenção

Desconecte o cabo de alimentação antes de limpar e fazer manutenção na fritadeira a ar, e espere que arrefeça até uma temperatura segura antes de avançar. Por favor remova o cesto da fritadeira a ar quando limpar a fritadeira a ar.

- Superfície da fritadeira a ar:
A superfície da fritadeira a ar pode ser limpa com um pano seco, suave ou uma esponja húmida com um detergente de limpeza neutro.
- Cavidade:
Para remover manchas de dentro da fritadeira a ar, aplique uma quantidade adequada de detergente diluído em água quente na sua superfície e deixe estar durante cerca de 10 minutos, depois utilize uma esponja suave humedecida com água para limpar os resíduos do detergente.
- Cesto:
Limpe a fritadeira a ar após cada utilização. O cesto da fritadeira a ar é revestido, por isso não utilize qualquer palha de aço ou outro tipo de materiais de limpeza abrasivos para limpar, pois estes podem danificar o revestimento.
- Chapa de fritar e grelhador:
Pode utilizar um pano de algodão, suave ou uma esponja húmida com detergente neutro para limpar, depois humidificá-lo com água para limpar os resíduos de detergente.

Nota: A chapa de fritar e grelhador podem ser separados e colocados na máquina de lavar a louça para serem limpos; o cesto pode ser lavado em água, e pode ser limpo na máquina de lavar a louça; no entanto, a fritadeira a ar não pode ser lavada em água nem limpa na máquina de lavar a louça.

Precauções de limpeza

1. Depois de utilizar a fritadeira a ar, por favor desconecte da tomada a tempo e não coloque a fritadeira a ar perto de uma fonte de calor nem a mergulhe em água. Não posicione a tomada em cima da fritadeira a ar para evitar que a tomada arranhe a sua superfície.
2. A limpeza e manutenção devem ser feitas apenas após a fritadeira a ar ter arrefecido.
3. Não utilize quaisquer materiais de limpeza ou detergentes corrosivos ou abrasivos.

Nota: A limpeza e manutenção regular da fritadeira a ar irá ajudar a prolongar o seu tempo de vida.

Dicas de manutenção


- Apenas técnicos profissionalmente treinados e qualificados devem consertar a fritadeira a ar.
- Qualquer outra pessoa não deverá consertar a fritadeira a ar sem permissão, de modo a evitar consequências sérias.
- Quando a fritadeira a ar estiver a agir anormalmente, por favor refira-se à resolução de problemas antes de contactar a equipa de serviço pós-venda.
- Se o problema não conseguir ser resolvido, por favor desconecte o cabo de alimentação e contacte a equipa de serviço de pós-vendas.

Resolução de problemas

Problema	Causas prováveis	Soluções
A fritadeira a ar não funciona.	A fritadeira a ar não está conectada a uma fonte de energia.	Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica aterrada.
	O cesto não está metido no seu sítio.	Retire o cesto e meta-o de volta no seu sítio.
Ecrã mostra E1.	O sensor tem um circuito quebrado.	Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
Ecrã mostra E2.	O sensor está em curto-circuito.	Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
A ventoinha não roda.	A lâmina da ventoinha está presa.	Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	O motor está danificado ou outros componentes têm circuito partido.	Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
Fumo branco está a sair.	Cozinhar ingredientes gordurosos.	Quando frita ingredientes que contêm mais gordura, irá haver mais fumo, o que é normal.
	A fritadeira a ar ainda contém resíduos de gordura do programa de cozinha anterior.	Certifique-se que limpa a fritadeira a ar após cada programa de cozinha.
Não consigo inserir o cesto na fritadeira a ar facilmente.	Demasiados ingredientes no cesto.	Os ingredientes no cesto não podem exceder a marca máxima.
	O cesto não está inserido de forma adequada.	Insira o cesto de forma adequada.
A função de agendamento não funciona como solicitado.	O tempo de agendamento é demasiado curto.	O tempo agendado deve ser maior que o tempo de cozinhar.
	O tempo de agendamento não é guardado.	O tempo de agendamento deve ser guardado e executado ao premir o manípulo de controlo.
Não é possível conectar a Wi-Fi.	A aplicação Mi Home/Xiaomi Home não é a última versão.	Atualize a aplicação Mi Home/Xiaomi Home para a sua última versão.
	O sinal de Wi-Fi está fraco.	Mova-se para uma localização aonde o sinal seja forte o suficiente.
Não é possível conectar a fritadeira a ar.	Wi-Fi não consegue ser conectado.	Verifique se a Wi-Fi está conectada normalmente ou reinicie a Wi-Fi para a reconectar.

Diagrama elétrico

- ① Ecrã LCD
- ② Interruptor de segurança
- ③ Painel de controlo
- ④ Elemento de aquecimento
- ⑤ Fusível
- ⑥ Motor
- ⑦ Fusível
- ⑧ Placa de potência



Especificações

Nome: Forno (Friteadeira a Ar)	Capacidade: 6,5 L	Cor: Preto
Modelo: MAF10	Frequência nominal: 50–60 Hz	Peso líquido: 5,4 kg
Potência nominal: 1800 W	Tensão nominal: 220–240 V~	Peso bruto: 6,5 kg
Potência máxima de saída: <20 dBm	Dimensões da embalagem: 425 × 330 × 355 mm	
Temperatura operacional: -10 °C a 40 °C	Frequência de operação: 2412–2472 MHz	
Ligação sem fios: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		

Em condições normais de utilização, este equipamento deve ser mantido a uma distância de separação de, pelo menos, 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador.

CE Pelo presente, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo de Forno (Friteadeira a ar) MAF10 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Para consultar o manual detalhado online, visite www.mi.com/global/service/userguide



Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições de tais pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(Uma empresa do Ecossistema Mi)
Morada: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
Para mais informações, consulte o site www.mi.com

Versão do Manual do utilizador: V1.0

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Dziękujemy za zakup Wielofunkcyjnej frytkownicy Xiaomi Smart Air Fryer 6,5 l. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja mogą być przeprowadzane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat tylko wtedy, gdy odbywa się to pod nadzorem.
- Wielofunkcyjną frytkownicę i przewód zasilania należy trzymać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Wyłącznie do użytku domowego.
- W razie uszkodzenia lub zniszczenia przewodu zasilania należy go wymienić u producenta lub w serwisie posprzedażnym w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
- Temperatura dostępnych powierzchni może wzrosnąć po uruchomieniu wielofunkcyjnej frytkownicy.
- Podczas korzystania z wielofunkcyjnej frytkownicy powierzchnia łatwo się nagrzewa.
- Wielofunkcyjnej frytkownicy nie można obsługiwać za pomocą zewnętrznego minutnika ani niezależnego pilota zdalnego sterowania.
- Nie zatykaj wlotów i wylotów powietrza w wielofunkcyjnej frytkownicy ani ujścia rozpraszającego ciepło podczas korzystania z produktu – w przeciwnym razie może dojść do zakłócenia normalnego procesu rozpraszania ciepła.
- Nieprzygotowani profesjonalnie technicy nie powinni modyfikować wewnętrznego okablowania wielofunkcyjnej frytkownicy.
- Nie używaj węgla ani innych podobnych źródeł gorąca do podgrzewania kosza, płyty do smażenia lub grilla.
- Nie umieszczaj kosza na innych źródłach gorąca, takich jak kuchenka indukcyjna czy gazowa.


- Nie podłączaj przewodu zasilania do gniazdka ani nie odłączaj go mokrymi rękami, bo może to spowodować porażenie prądem.
- Nie używaj przewodu zasilania z poluzowanymi złączami lub słabym stykiem.
- Unikaj przesuwania się przewodu zasilania poprzez ostre przedmioty, aby uniknąć uszkodzenia go.
- Nie używaj wielofunkcyjnej frytkownicy do przechowywania przedmiotów, zwłaszcza łatwopalnych, wybuchowym lub korozyjnych.
- Nie uciskaj nadmiernie, nie zginaj ani nie wykręcaj przewodu zasilania, ani też nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów – w przeciwnym razie może dojść do odstonięcia lub przerwania rdzenia.
- Jeśli wielofunkcyjna frytkownica nie działa prawidłowo lub wystąpi usterka, natychmiast przestań jej używać i odłącz od źródła zasilania.
- Wielofunkcyjnej frytkownicy nie można uruchomić bez umieszczenia kosza na swoim miejscu.
- Aby uniknąć poparzeń, nie dotykaj kosza gołymi rękoma podczas lub po korzystaniu z urządzenia.
- Aby zapobiec ryzyku uduszenia, nie pozwalaj dzieciom przebywać w pobliżu folii do owijania i opakowania ani bawić się nimi.
- Nie używaj plastikowych przyborów ani zwykłego papieru do owijania w celu owijania żywności przeznaczonej do gotowania.
- Aby uniknąć uszkodzeń lub wadliwego działania, nie upuszczaj wielofunkcyjnej frytkownicy ani nie uderzaj w nią twardymi przedmiotami.
- Aby uniknąć porażenia prądem lub urazu ciała, nie wsadzaj szpilek, drutów ani innych przedmiotów do otworów wielofunkcyjnej frytkownicy.
- Nie używaj akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.
- Normalny zakres wysokości roboczej dla tego produktu wynosi 0–2000 metrów.
- Podczas obsługi należy zachować odległość co najmniej 30 cm między wylotami powietrza a innymi urządzeniami.
- Podczas obsługi wielofunkcyjnej frytkownicy nie poruszaj ani nie potrząsaj nią.
- Aby uniknąć zagrożeń, nie umieszczaj żadnych ciał obcych w przełączniku bezpieczeństwa.

- Umieszczając wielofunkcyjną frytkownicę w szafce kuchennej itp., upewnij się, że jest ona dobrze wietrzona.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub naprawy odłącz wielofunkcyjną frytkownicę od gniazdka.
- Aby uniknąć uszkodzenia produktu lub wypadków, produkt należy umieścić na równej, odpornej na ciepło powierzchni.
- Upewnij się, że silikonowe części wielofunkcyjnej frytkownicy nie stykają się z etanolem lub roztworem zawierającym ponad 50% alkoholu.
- Aby uniknąć porażenia prądem lub innych zagrożeń, upewnij się, że gniazdko elektryczne, do którego podłączona jest wielofunkcyjna frytkownica, jest dobrze uziemione.



UWAGA: Gorące powierzchnie.

Przegląd produktu



Uwagi: 1. Silikonowa guma na płycie do smażenia wykonana jest z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, odpornych na wysoką temperaturę, które zapobiegają zdrapaniu warstwy kosza przez krawędzie tej płyty i zwiększają jej stabilność. Nie usuwaj silikonowej gumy z płyty do smażenia.

2. Za małe składniki nie są odpowiednie do wykorzystania na grillu. Upewnij się, że składniki nie wypadają przez szpary w grillu.

Pokrętko sterowania



1
Naciśnij, aby potwierdzić wybór.



2
Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby powrócić do poprzedniego menu.



3
Przekręć w lewo/prawo, aby zmienić funkcje.



4
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć.

Jak używać

Podłącz przewód zasilania i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć wielofunkcyjną frytkownicę.

Uwagi: 1. Po pierwszym włączeniu wielofunkcyjnej frytkownicy naciśnij przycisk zasilania i przejdź do ekranu wyboru języka, przekręć pokrętko do preferowanego języka, a następnie naciśnij pokrętko sterowania, aby potwierdzić wybór.

2. Po pierwszym włączeniu wielofunkcyjna frytkownica może wydzielać słaby zapach. Aby się go pozbyć, najlepiej uruchomić wielofunkcyjną frytkownicę z pustym koszykiem, przy maksymalnej temperaturze (220°C) i na pięć minut. Podczas pracy z pustym koszykiem wielofunkcyjna frytkownica może wydzielać trochę białego dymu lub zapach – jest to zupełnie normalne.

Włączanie

Podłącz przewód zasilania i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć wielofunkcyjną frytkownicę.

Wyłączanie




Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć wielofunkcyjną frytkownicę bez względu na tryb, w którym się znajduje.



Konfiguracja Wi-Fi

- **Resetowanie Wi-Fi:**
Naciśnij pokrętko sterowania, aby przejść do funkcji „Resetowanie połączenia Wi-Fi” na ekranie Wi-Fi, a następnie naciśnij je, aby wybrać Tak i zresetować Wi-Fi albo przekręć, aby wybrać Nie i opuścić funkcję resetu Wi-Fi.
- **Włączanie/wyłączanie Wi-Fi:**
Naciśnij pokrętko sterowania, aby przejść do funkcji „Włączyć/Wyłączyć Wi-Fi?” na ekranie Wi-Fi, a następnie naciśnij je, aby wybrać Tak i włączyć lub wyłączyć Wi-Fi albo przekręć, aby wybrać Nie i cofnąć zmianę.

Wskaźnik statusu Wi-Fi

			
Oczekiwanie na szybkie połączenie...	Ponowne łączenie po rozłączeniu...	Połączono pomyślnie	Aktualizowanie...
Wskaźnik Wi-Fi miga wolno	Wskaźnik Wi-Fi miga szybko	Wskaźnik Wi-Fi pozostaje włączony	Wskaźnik Wi-Fi miga szybko

Uwaga: Jeśli po upływie 30 minut wielofunkcyjna frytkownica nie połączy się z Wi-Fi, wskaźnik Wi-Fi zgaśnie.

Aktualizacja oprogramowania układowego

Podczas aktualizacji oprogramowania układowego za pośrednictwem aplikacji Mi Home/Xiaomi Home na wyświetlaczu pojawi się informacja o tym, że trwa aktualizacja, a wielofunkcyjna frytkownica automatycznie uruchomi się ponownie po zakończeniu aktualizowania.

Uwaga: Aplikacja Mi Home/Xiaomi Home zaktualizuje oprogramowanie układowe, chyba że wielofunkcyjna frytkownica albo wyświetlacz jest wyłączony lub jeśli połączenie Wi-Fi jest przerwane. Podczas aktualizacji nie można wykonywać innych operacji.

Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Ten produkt współpracuje z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*. Steruj urządzeniem w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.



67CE8213

- Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Mi Home/Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami.
- Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

* Nazwa aplikacji Xiaomi Home obowiązuje w Europie (z wyjątkiem Rosji). Nazwa aplikacji wyświetlana w urządzeniu użytkownika jest obowiązująca. Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.

Gotowanie

Przygotowanie

Składniki można marynować i spróbować przed gotowaniem.

Rozpoczęcie programu gotowania

1. Umieść wielofunkcyjną frytkownicę na stabilnej, równej powierzchni i upewnij się, że wokół niej cyrkuluje powietrze.

2. Umieść płytę do smażenia w koszu i dodaj składniki jeden po drugim. Jeśli wykorzystywanych jest więcej składników, użyj grilla, aby ułożyć je warstwami.

Uwaga: Układanie składników warstwami bez korzystania z grilla wpłynie na proces gotowania.

3. Po włożeniu kosza do końca do wielofunkcyjnej frytkownicy naciśnij pokrętło sterowania, aby wybrać tryb ręczny lub wstępnie ustawiony przepis (np. jogurt, skrzydełka z kurczaka, frytki), obróć i naciśnij je, aby ustawić tryb (chrupiący grill / usuwanie tłuszczu uwzględnione w niektórych przepisach), liczbę składników (pojedyncza/podwójna warstwa), temperaturę i czas, a następnie naciśnij, aby rozpocząć program gotowania i odliczanie czasu gotowania. W przypadku programu planowanego gotowania wielofunkcyjna frytkownica automatycznie rozpocznie gotowanie w odpowiednim czasie, aby zapewnić ukończenie gotowania na czas.

Uwagi:

1. Czas gotowania i temperaturę można wyregulować, przekręcając pokrętło sterowania podczas gotowania, z wyjątkiem przyrządzenia jogurtu. Jeśli gotowanie odbywa się w trybie usuwania tłuszczu, można wyregulować tylko czas gotowania, lecz nie temperaturę gotowania.

2. Po przekręceniu pokrętła sterowania w celu wyregulowania czasu gotowania lub temperatury należy je nacisnąć w celu potwierdzenia; w przeciwnym razie po pięciu sekundach gotowanie będzie odbywać się dalej zgodnie z początkowymi ustawieniami wielofunkcyjnej frytkownicy.

3. Podczas gotowania nie można zmienić przepisu.

4. Podczas gotowania składników nie trzeba obracać (chyba że przyrządzone są frytki). Po wybraniu ponad 500 g frytek w połowie gotowania pojawi się komunikat o konieczności obrócenia składników. Postępuj zgodnie z instrukcjami – wyciągnij kosz i obróć składniki, a następnie włóż go do końca do wielofunkcyjnej frytkownicy i naciśnij pokrętło sterowania, aby kontynuować gotowanie.

5. Rozlegnie się dźwięk, a na wyświetlaczu wielofunkcyjnej frytkownicy pojawi się komunikat „Zakończono” – w tym momencie program gotowania dobiega końca (w przypadku niektórych przepisów wielofunkcyjna frytkownica przejdzie w tryb utrzymywania ciepła i wyświetli się komunikat „Utrzymywanie ciepła...”). Ostrożnie wyjmij kosz i użyj zacisków, aby wyjąć jedzenie.

UWAGA: Po zakończeniu gotowania kosz jest bardzo gorący, więc nie dotykaj go, aby uniknąć poparzeń.

Inne operacje

1. Ustawienia języka

- Włącz wielofunkcyjną frytkownicę, przejdź do ustawień i naciśnij pokrętkę sterowania, aby przejść do ekranu wyboru języka.
- Przekręć pokrętkę sterowania na wybrany język i naciśnij, aby potwierdzić.

2. Tryb ręczny

- Po włączeniu wielofunkcyjnej frytkownicy naciśnij pokrętkę sterowania, aby przejść w tryb ręczny, a następnie obróć je do preferowanej temperatury gotowania, naciśnij, aby ustawić czas i obróć do preferowanego czasu gotowania; na koniec naciśnij pokrętkę sterowania, aby rozpocząć ręczny program gotowania.

3. Regulacja temperatury/czasu

- Temperaturę można regulować w zakresie od 40°C do 220°C. Czas można regulować w zakresie 0–24 godzin.
- Podczas regulacji czasu gotowania lub planowanego czasu zakończenia zwróć uwagę na szybkość, z jaką obracasz pokrętkę sterowania. Jeśli regulowany zakres czasu wynosi ≥ 60 minut, szybkie przekręcenie pokrętki sterowania zmieni czas o 60 minut, natomiast wolne przekręcenie zmieni czas o 1 minutę. Jeśli regulowany zakres czasu wynosi < 60 minut, szybkie przekręcenie pokrętki sterowania zmieni czas o 10 minut, natomiast wolne przekręcenie zmieni czas o 1 minutę.
- W przypadku temperatury gotowania każdy obrót pokrętki sterowania zmieni temperaturę o 5°C.
- Jeśli po wyregulowaniu lub modyfikacji parametrów czasu w programie gotowania zgodnie z przepisem temperatura gotowania mieści się w zakresie od 80°C do 220°C, regulowany czas gotowania będzie wynosić ≤ 1 godzinę; jeśli temperatura gotowania wynosi $< 80^\circ\text{C}$, regulowany czas gotowania będzie wynosić ≤ 24 godziny.

4. Planowane gotowanie

- Wybierz pokrętkę sterowania, aby wybrać funkcję planowania, obróć je, aby wybrać planowany przepis, a następnie ustaw czas gotowania i planowany czas. Wielofunkcyjna frytkownica rozpocznie gotowanie w odpowiednim momencie, aby zapewnić zakończenie gotowania w planowanym czasie. Następnie przejdzie w tryb utrzymywania ciepła lub zakończy gotowanie po wszystkim.

Uwagi:

1. Planowany czas musi być dłuższy niż czas gotowania, ale krótszy niż 24 godziny.
2. Podany tutaj planowany czas to planowany czas zakończenia. Przykładowo, jeśli na wyświetlaczu pojawi się czas 02:40, oznaczać to będzie, że gotowanie zakończy się za 2 godziny i 40 minut.
3. Funkcja planowania nie działa w trybie jogurtu, suszonych owoców i rozmrażania.

Notas:

5. Funkcja utrzymywania ciepła

- Funkcja utrzymywania ciepła jest domyślnie włączona. Można ją wyłączyć w ustawieniach.
- Czas utrzymywania ciepła wynosi 30 minut, a utrzymywana temperatura – 80°C.

Utrzymywanie ciepła i ramy czasowe tej funkcji zostaną zawieszono po wyciągnięciu koszyka. Jeśli koszyk zostanie włożony z powrotem w ciągu 3 minut, funkcja utrzymywania ciepła wznowi działanie i będzie działać przez pozostały czas. Jeśli koszyk nie zostanie włożony w ciągu 3 minut, funkcja utrzymywania ciepła wyłączy się i pojawi się ekran główny odpowiedniego przepisu.

UWAGA: Jeśli po włączeniu funkcji utrzymywania ciepła temperatura wynosi $\geq 80^{\circ}\text{C}$, funkcja zacznie działać, gdy zakończy się gotowanie. W przeciwnym razie wielofunkcyjna frytkownica automatycznie zakończy gotowanie i pojawi się ekran zakończonego gotowania.

6. Wstrzymanie/anulowanie gotowania

- W trybie gotowania naciśnij pokrętkę sterowania, aby wstrzymać gotowanie. Podczas lub po wstrzymaniu gotowania naciśnij i przytrzymaj pokrętkę sterowania przez sekundę, aby przejść do ekranu anulowania gotowania. Wybierz Tak, aby anulować gotowanie i przejść do ekranu trybu ręcznego.

UWAGA: Podczas gotowania można obrócić pokrętkę sterowania, aby wyregulować temperaturę i parametry czasowe. W trakcie regulacji migać będą odpowiadające liczby. Po zakończeniu regulacji naciśnij pokrętkę sterowania, aby potwierdzić wybór nowych parametrów.

7. Tryb przepisów w chmurze

- Jeśli wybierzesz i uruchomisz przepis w chmurze za pośrednictwem aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, wielofunkcyjna frytkownica automatycznie rozpocznie gotowanie zgodnie z tym przepisem. Po zakończeniu gotowania wielofunkcyjna frytkownica przejdzie do ekranu trybu ręcznego.

Uwagi: 1. Podczas uruchamiania przepisów w chmurze można wybrać funkcję planowania.

2. Przepisów w chmurze nie można uruchomić w następujących sytuacjach:

- 1) Wielofunkcyjna frytkownica lub wyświetlacz jest wyłączony.
- 2) Brak połączenia Wi-Fi.
- 3) Wielofunkcyjna frytkownica jest w trybie gotowania, utrzymywania ciepła lub planowania.
- 4) Koszyk został wyciągnięty.

8. Komunikat o błędzie

- Po wykryciu błędu na ekranie wielofunkcyjnej frytkownicy pojawi się symbol „E1” lub „E2” i rozlegną się trzy krótkie sygnały dźwiękowe.

Czyszczenie i konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji wielofunkcyjnej frytkownicy odłącz przewód zasilania i poczekaj, aż się ochłodzi do bezpiecznej temperatury. Podczas czyszczenia wielofunkcyjnej frytkownicy wyjmij z niej kosz.

- Powierzchnia wielofunkcyjnej frytkownicy:
Powierzchnię wielofunkcyjnej frytkownicy może przetrzeć suchą, miękką szmatką lub gąbką zwilżoną neutralnym środkiem czyszczącym.
- Wnętrze:
Aby usunąć plamy z wnętrza wielofunkcyjnej frytkownicy, użyj odpowiedniej ilości detergentu rozpuszczonego w gorącej wodzie i nałóż go na powierzchnię, a następnie pozostaw na około dziesięć minut; użyj miękkiej gąbki zwilżonej wodą, aby usunąć resztki detergentu.
- Kosz:
Po każdym użyciu wyczyść wielofunkcyjną frytkownicę. Kosz wielofunkcyjnej frytkownicy jest powlekany, więc podczas czyszczenia nie używaj wełny stalowej ani innych ściernych materiałów czyszczących, bo mogą one uszkodzić powłokę.
- Płyta do smażenia i grill:
Podczas czyszczenia używaj miękkiej, bawełnianej szmatki lub gąbki zwilżonej neutralnym środkiem czyszczącym, a następnie zmocz wodą, aby usunąć resztki detergentu.

Uwaga: Płytę do smażenia i grill można oddzielić i umieścić w zmywarce; kosz można umyć w wodzie i w zmywarce. Wielofunkcyjnej frytkownicy nie można czyścić w wodzie ani w zmywarce.

Przestrogi związane z czyszczeniem

1. Po użyciu wielofunkcyjnej frytkownicy odłącz wtyczkę zasilania na czas i nie umieszczaj jej blisko ognia ani nie zanurzaj w wodzie. Nie umieszczaj wtyczki zasilania bezpośrednio na wielofunkcyjnej frytkownicy, aby zapobiec zarysowaniu powierzchni.
2. Czyszczenie i konserwację należy wykonywać wyłącznie po ochłodzeniu się wielofunkcyjnej frytkownicy.
3. Nie stosuj korozyjnych lub ściernych materiałów ani środków czyszczących.

Uwaga: Regularne czyszczenie i konserwacja wielofunkcyjnej frytkownicy wydłużą jej okres eksploatacyjny.

Wskazówki dotyczące konserwacji


- Tylko odpowiednio przeszkoleni, wykwalifikowani technicy powinni przystępować do naprawy wielofunkcyjnej frytkownicy.
- Inne osoby nie powinny naprawiać wielofunkcyjnej frytkownicy bez pozwolenia – w przeciwnym razie grozi to poważnymi konsekwencjami.
- Jeśli wielofunkcyjna frytkownica nie działa normalnie, przed skontaktowaniem się z posprzedażowym działem serwisowym zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów.
- Jeśli problemu nie da się rozwiązać, wyjmij przewód zasilania z gniazdka i odłącz go, a następnie skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Wielofunkcyjna frytkownica nie działa.	Wielofunkcyjna frytkownica nie jest podłączona do zasilania.	Podłącz przewód zasilania do uziemionego gniazdka elektrycznego.
	Kosz nie jest umieszczony na swoim miejscu.	Wyciągnij kosz i wepchnij go ponownie na swoje miejsce.
Na wyświetlaczu pojawia się E1.	Obwód czujnika zepsuł się.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Na wyświetlaczu pojawia się E2.	W czujniku wystąpiło zwarcie.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Wentylator nie obraca się.	Skrzydło wentylatora jest zablokowane.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
	Silnik uległ uszkodzeniu lub obwód innych części składowych zepsuł się.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Pojawił się biały dym.	Gotowanie tłustych składników.	Podczas smażenia składników zawierających większe ilości tłuszczu pojawia się dużo dymu i jest to zupełnie normalne.
	Wielofunkcyjna frytkownica nadal zawiera resztki tłuszczu po poprzednim programie gotowania.	Wyczyść wielofunkcyjną frytkownicę po każdym programie gotowania.
Kosza nie można włożyć gładko do wielofunkcyjnej frytkownicy.	W koszu znajduje się zbyt wiele składników.	Składniki w koszu nie mogą przekroczyć maksymalnego oznaczenia.
	Kosz nie jest włożony prawidłowo.	Włóż kosz prawidłowo.
Funkcja planowania nie działa, jak powinna.	Zaplanowany czas jest za krótki.	Planowany czas powinien być dłuższy niż czas gotowania.
	Zaplanowany czas nie został zapisany.	Planowany czas powinien zostać zapisany i wykonany poprzez naciśnięcie pokrętki sterowania.
Nie można połączyć Wi-Fi.	Wersja aplikacji Mi Home/Xiaomi Home nie jest najnowsza.	Zaktualizuj aplikację Mi Home/Xiaomi Home do najnowszej wersji.
	Sygnał sieci Wi-Fi jest za słaby.	Przejdź do miejsca, w którym sygnał jest wystarczająco silny.
Nie można połączyć wielofunkcyjnej frytkownicy.	Nie można połączyć się z Wi-Fi.	Sprawdź, czy Wi-Fi jest połączony normalnie lub zresetuj Wi-Fi, aby połączyć się ponownie.

Schemat elektryczny

- 1 Wyświetlacz LCD
- 2 Przełącznik bezpieczeństwa
- 3 Panel sterowania
- 4 Element grzejny
- 5 Bezpiecznik
- 6 Silnik
- 7 Bezpiecznik
- 8 Płyta zasilania



Dane techniczne

Nazwa: Kuchenka (wielofunkcyjna frytkownica)	Pojemność: 6,5 l	Kolor: Czarny
Model: MAF10	Częstotliwość znamionowa: 50–60 Hz	Masa netto: 5,4 kg
Moc znamionowa: 1800 W	Napięcie znamionowe: 220–240 V~	Masa brutto: 6,5 kg
Maksymalna moc wyjściowa: <20 dBm	Wymiary opakowania: 425 × 330 × 355 mm	
Temperatura eksploatacji: od -10°C do 40°C	Częstotliwość robocza: 2412–2472 MHz	
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		

W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

CE Niniejszym firma Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu kuchenka (wielofunkcyjna frytkownica) MAF10 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie www.mi.com/global/service/userguide



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Producent: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(spółka Mi Ecosystem)
Adres: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
Więcej informacji: www.mi.com

Wersja instrukcji obsługi: V1.0

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Xiaomi Akıllı Hava Fritözü 6,5L ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün sadece ev kullanımı içindir.

Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Güvenlik Talimatları

- Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmiş olması durumunda 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek bakım, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Lütfen hava fritözünü ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Sadece ev kullanımı içindir.
- Güç kablosu hasar görmüşse veya kırılmışsa, güvenlik risklerini önlemek için üretici veya satış sonrası hizmet departmanı tarafından değiştirilmelidir.
- Hava fritözü çalıştığı sırada, dokunulabilir yüzeyin sıcaklığı artabilir.
- Hava fritözü kullanımdayken yüzey kolayca ısınır.
- Hava fritözü harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda ile çalıştırılmamalıdır.
- Hava fritözünün normal ısı dağılımının etkilenmesini önlemek için, kullanım sırasında cihazın hava giriş ve çıkışlarını veya ısı dağılım deliklerini engellemeyin.
- Profesyonel eğitim almamış hiçbir teknisyen, hava fritözünün dahili kablolarını değiştirmemelidir.
- Sepeti, kızartma tepsisini veya ızgarayı ısıtmak için odun kömürü veya benzeri yakıt kaynakları kullanmayın.
- Sepeti, indüksiyonlu ocak veya gaz sobası gibi diğer ısı kaynaklarının üzerine koymayın.
- Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için güç kablosunu ıslak ellerle takmayın veya çıkarmayın.
- Gevşek bağlantılı veya zayıf temaslı bir güç kablosu kullanmayın.
- Güç kablosuna zarar vermemek için, güç kablosunun keskin nesnelerin arasından geçmesine izin vermeyin.


- Hava fritözünü özellikle yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı öğeler olmak üzere herhangi bir öğeyi saklamak için kullanmayın.
- Çekirdeğinin dışarı çıkmasını veya kırılmasını önlemek için, güç kablosunu aşırı derecede sıkıştırmayın, bükmeyin, döndürmeyin veya üzerine ağır nesnelere koymayın.
- Eğer anormal bir şekilde çalışıyorsa veya arızalıysa, hava fritözünü kullanmayı hemen bırakın ve güç kaynağından çıkarın.
- Sepet yerinde değilken hava fritözünü çalıştırılmaz.
- Haşlanmayı önlemek için, kullanım sırasında veya kullanımdan hemen sonra sepete doğrudan ellerinizle dokunmayın.
- Boğulma kazalarını önlemek için çocukların streç filme ve ambalaja yaklaşmalarına veya bunlarla oynamalarına izin vermeyin.
- Yiyecekleri pişirmek üzere sarmak için plastik kapları veya normal kağıt ambalaj malzemelerini kullanmayın.
- Hasar veya arızayı önlemek için, bu hava fritözünü düşürmeyin veya sert nesnelere çarpmayın.
- Elektrik çarpmasını veya yaralanmayı önlemek için, hava fritözünün açıklıklarından herhangi birine iğne, kablo veya başka nesnelere sokmayın.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen herhangi bir aksesuarı kullanmayın.
- Bu ürünün normal çalışma yüksekliği aralığı 0–2000 metredir.
- Kullanım sırasında hava çıkışı ile diğer cihazlar arasında 30 cm veya daha fazla mesafe bırakın.
- Kullanım sırasında hava fritözünü hareket ettirmeyin veya sallamayın.
- Herhangi bir tehlikeyi önlemek için, güvenlik anahtarına herhangi bir yabancı nesne sokmayın.
- Hava fritözünü mutfak dolabı vb. içine yerleştirirken lütfen buraların iyi havalandırıldığından emin olun.
- Lütfen temizlemeden veya tamir etmeden önce hava fritözünün fişini prizden çektiğinizden emin olun.
- Ürüne zarar gelmesini veya kazaları önlemek için, bu ürün düz, ısıya dayanıklı bir yüzeyde kullanılmalıdır.

- Hava fritözünün silikon parçalarının etanol veya %50'den fazla alkol içeren solüsyonlarla temas etmediğinden emin olun.
- Elektrik çarpmasını veya diğer güvenlik risklerini önlemek için, lütfen hava fritözünün takılı olduğu elektrik prizinin iyi topraklanmış olduğundan emin olun.



DİKKAT: Sıcak yüzey.

Ürüne Genel Bakış



- Notlar: 1. Kızartma tepsisinde kullanılan silikon kauçuk, kızartma tepsisinin kenarlarının sepetin kaplamasını çizmesini önlemek ve kızartma tepsisinin sabit durmasını güçlendirmek için yüksek sıcaklığa dayanıklı gıda kullanılabilir malzemelerden üretilmiştir. Silikon kauçuğu kızartma tepsisinden çıkarmayın.
2. Çok küçük malzemeler ızgarada kullanıma uygun değildir. Lütfen malzemelerin ızgaradaki aralıklardan düşmediğinden emin olun.

Kontrol Düğmesi



1

Seçimi onaylamak için basın.



2

Önceki menüye dönmek için 1 saniye basılı tutun.



3

Fonksiyonları değiştirmek için sola/sağa çevirin.



4

Açmak/kapatmak için güç düğmesine basın.

Nasıl Kullanılır

Güç kablosunu bağlayın ve hava fritözünü açmak için güç düğmesine basın.

- Notlar: 1. Hava fritözü ilk kez açıldığında, güç düğmesine basın ve dil seçim ekranına gidin, kontrol düğmesini istediğiniz dile çevirin, ardından seçimi onaylamak için kontrol düğmesine basın.
2. Hava fritözü ilk kullanımda hafif bir koku yayabilir. Kokuyu gidermek için hava fritözünü boş bir sepetle maksimum sıcaklıkta (220 °C) beş dakika çalıştırmanız önerilir. Hava fritözü boş bir sepetle çalışırken az miktarda beyaz duman veya koku yayabilir, bu normaldir.

Açma

Güç kablosunu bağlayın ve hava fritözünü açmak için güç düğmesine basın.

Kapatma

Hangi durumda olursa olsun, hava fritözünü kapatmak için güç düğmesine basın.



Wi-Fi Yapılandırma





- Wi-Fi Sıfırlama:

"Wi-Fi" ekranındayken "Wi-Fi'yı Sıfırla" seçeneğine girmek için kontrol düğmesine basın, ardından Wi-Fi'yı sıfırlamak için kontrol düğmesine basarak Evet'i seçin veya Wi-Fi'yı sıfırlamayı iptal etmek için kontrol düğmesini çevirerek Hayır'ı seçin.

- Wi-Fi'yı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma:

"Wi-Fi" ekranındayken "Wi-Fi Etkinleştirilsin mi/Devre Dışı Bırakılsın mı?" ayarına girmek için kontrol düğmesine basın, ardından Wi-Fi'yi etkinleştirme veya devre dışı bırakmak için kontrol düğmesine basarak Evet'i seçin veya değişiklikten vazgeçmek için kontrol düğmesini çevirerek Hayır'ı seçin.

Wi-Fi Durum Göstergesi

			
Hızlı bağlantı bekleniyor...	Bağlantı kesintisinden sonra tekrar bağlanıyor...	Başarıyla bağlandı	Güncelleniyor...
Wi-Fi göstergesi yavaşça yanıp söner	Wi-Fi göstergesi hızlıca yanıp söner	Wi-Fi göstergesi açık kalır	Wi-Fi göstergesi hızlıca yanıp söner

Not: Hava fritözü 30 dakika boyunca Wi-Fi'ye bağlanmazsa, Wi-Fi göstergesi kapanır.

Üretici yazılımı güncelleştirme

Mi Home/Xiaomi Home uygulaması aracılığıyla aygıt yazılımını güncellediğinizde, ekranda bir güncellemenin devam ettiği gösterilir ve güncelleme tamamlandığında hava fritözü otomatik olarak yeniden başlatılır.

Not: Mi Home/Xiaomi Home uygulaması, hava fritözü veya ekranı kapatılmadığı veya Wi-Fi bağlantısı kesilmediği sürece aygıt yazılımını güncelleyebilir. Aygıt yazılımı güncellemesi devam ederken diğer işlemler gerçekleştirilemez.

Mi Home/Xiaomi Home Uygulamasına Bağlanma

Bu ürün Mi Home/Xiaomi Home uygulaması* ile çalışır. Cihazınızı Mi Home/Xiaomi Home uygulamasıyla denetleyin.



67CE8213

- QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home/Xiaomi Home" ifadesini arayın.
- Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokununuz ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.

* Uygulamanın Avrupa'daki (Rusya hariç) adı Xiaomi Home'dur. Cihazınızda görüntülenen uygulama adı varsayılan olarak kabul edilmelidir.

Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.

Pişirme

Hazırlıklar

Malzemeler pişirmeden önce tatlandırmak için marine edilebilir.

Bir pişirme programının başlatılması

1. Hava fritözünü sabit, düz bir yüzeye yerleştirin ve hava fritözü çevresinde hava sirkülasyonu olmasını sağlayın.

2. Kızartma tepsisini sepetin içine koyun ve malzemeleri tek tek ekleyin. Daha fazla malzeme varsa, bunları iki katmanlı olarak yerleştirmek için ızgarayı kullanın.

Not: Malzemelerin ızgara kullanılmadan istiflenmesi pişirmeyi etkileyecektir.

3. Sepet hava fritözüne tamamen itildiğinde, manuel modu veya önceden ayarlanmış tarifi (yoğurt, tavuk kanadı, patates kızartması vb.) seçmek için kontrol düğmesini çevirin ve basın, modu (çıtır ızgara/yağsız, belirli tarifler tarafından desteklenir), malzeme miktarını (tek katlı/çift katlı), sıcaklığı ve zamanı ayarlamak için kontrol düğmesini çevirin ve basın ve pişirme programını ve pişirme süresi geri sayımını başlatmak için kontrol düğmesine basın. Programlanmış bir pişirme programı için hava fritözü, pişirmenin planlanan sürede tamamlanmasını sağlamak için uygun bir zamanda otomatik olarak pişirmeye başlayacaktır.

Notlar:

1. Pişirme süresi ve sıcaklığı, yoğurt pişirme hariç, pişirme sırasında kontrol düğmesi çevrilerle ayarlanabilir. Yağsız modda pişirirken, pişirme sıcaklığını değil sadece pişirme süresini ayarlayabilirsiniz.
2. Pişirme süresini veya sıcaklığını ayarlamak için kontrol düğmesini çevirdiğinizde, onaylamak için kontrol düğmesine basmanız gerekir, aksi takdirde hava fritözü beş saniye sonra orijinal ayarlara göre pişirmeye devam edecektir.
3. Pişirme sırasında tarifi değiştiremezsiniz.

4. Pişirme sırasında malzemelerin çevrilmesi gerekmez (patates kızartması pişirmediğiniz sürece). 500 g'dan fazla patates kızartması seçtiğinizde, malzemeleri yarıya kadar çevirmeniz istenecektir. Malzemeleri çevirmek için sepeti dışarı çekme komutunu izleyin, ardından sepeti tamamen hava fritözüne geri yerleştirin ve pişirmeye devam etmek için kontrol düğmesine basın.

5. Hava fritözü bip sesi çıkaracak ve pişirme programının tamamlandığını belirtmek için ekranda "Tamamlandı" yazısı görünecektir (bazı tarifler için hava fritözü sıcak tutma durumuna girecek ve "Sıcak tutuluyor..." yazısı görünecektir). Sepeti dikkatlice çıkarın ve yiyeceği çıkarmak için kısıkaçları kullanın.

DİKKAT: Pişirme tamamlandığında sepet çok sıcak olur; bu nedenle haşlanmaktan kaçınmak için sepete dokunmayın.

Diğer İşlemler

1. Dil ayarları

- Hava fritözünü açın, ayarlara gidin ve dil seçim ekranına girmek için kontrol düğmesine basın.
- Kontrol düğmesini istenen dile çevirin ve onaylamak için basın.

2. Manuel mod

- Hava fritözü açıldığında, manuel moda girmek için kontrol düğmesine basın, ardından kontrol düğmesini istenen pişirme sıcaklığına çevirin, zamanı ayarlamak için kontrol düğmesine basın ve kontrol düğmesini istenen pişirme süresine çevirin ve son olarak manuel pişirme programını başlatmak için kontrol düğmesine basın.

3. Sıcaklık/Zaman ayarı

- Sıcaklık 40 °C ile 220 °C arasında ayarlanabilir. Zaman 0–24 saat arasında ayarlanabilir.
- Pişirme süresini veya planlanan tamamlanma süresini ayarlarken, kontrol düğmesini çevirme hızınıza dikkat edin. Ayarlanan zaman aralığı ≥ 60 dakika olduğunda, kontrol düğmesini hızlı çevirmek süreyi 60 dakika ayarlarken, kontrol düğmesini yavaş çevirmek süreyi 1 dakika ayarlayacaktır. Ayarlanan süre aralığı < 60 dakika olduğunda, kontrol düğmesini hızlı çevirmek süreyi 10 dakika ayarlarken, kontrol düğmesini yavaş çevirmek süreyi 1 dakika ayarlayacaktır.
- Pişirme sıcaklığı, kontrol düğmesinin her çevilişinde 5 °C ayarlanır.
- Tarif pişirme programında zaman parametrelerini ayarlar veya değiştirirseniz, pişirme sıcaklığı 80 °C ile 220 °C arasında olduğunda, ayarlanabilir pişirme süresi ≤ 1 saattir; pişirme sıcaklığı < 80 °C olduğunda, ayarlanabilir pişirme süresi ≤ 24 saattir.

4. Programlı pişirme

- Programlama işlevini seçmek için kontrol düğmesine basın, programlanan tarifi seçmek için kontrol düğmesini çevirin, ardından pişirme süresini ve planlanan süreyi ayarlayın. Hava fritözü, pişirmenin planlanan sürede tamamlanmasını sağlamak için uygun bir zamanda otomatik olarak pişirmeye başlayacak, ardından sıcak tutma durumuna girecek veya bittiğinde pişirmeyi bitirecektir.

Notlar:

1. Planlanan süre, pişirme süresinden uzun ancak 24 saatten az olmalıdır.
2. Buradaki planlanan süre, planlanan tamamlanma süresidir. Örneğin, ekranda 02:40 görüntülendiğinde, pişirme işleminin 2 saat 40 dakika içinde tamamlanacağı anlamına gelir.
3. Program işlevi yoğurt, kuru meyve ve buz çözme modlarında desteklenmez.

5. Sıcak tutma işlevi

- Sıcak tutma işlevi varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu işlevi ayarlardan devre dışı bırakabilirsiniz.
- Sıcak tutma süresi 30 dakika, sıcak tutma sıcaklığı ise 80 °C'dir. Sepet dışarı çekilirse sıcak tutma ve zamanlaması askıya alınacaktır. Eğer sepeti 3 dakika içinde geri yerleştirirseniz, sıcak tutma kaldığı zaman ayarlarına göre devam edecektir. Sepet 3 dakika içinde geri yerleştirilmezse sıcak tutma sona erer ve hava fritözü ilgili tarifi ana ekranına döner.
DİKKAT: Sıcak tutma açık olduğunda ve pişirme sıcaklığı ≥ 80 °C olarak ayarlandığında, sıcak tutma işlemi pişirme tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Aksi takdirde, hava fritözü pişirme tamamlandı ekranına giderek doğrudan pişirmeyi bitirecektir.

6. Pişirmeyi duraklatma/iptal etme

- Hava fritözü pişirme modundayken, pişirmeyi duraklatmak için kontrol düğmesine basın. Hava fritözü pişirme modundayken veya duraklatılmışken pişirme iptal ekranına girmek için kontrol düğmesini bir saniye basılı tutun. Pişirmeyi iptal etmek ve manuel mod ekranına girmek için Evet'i seçin.
DİKKAT: Pişirme sırasında sıcaklık ve zaman parametrelerini ayarlamak için kontrol düğmesini çevirebilirsiniz. Ayarlama sırasında ilgili sayılar yanıp sönecektir. Ayarlama tamamlandığında, yeni parametreleri onaylamak için kontrol düğmesine basın.

7. Bulut tarifi modu

- Mi Home/Xiaomi Home uygulaması ile bir bulut tarifi seçer ve uygularsanız, hava fritözü tarife göre otomatik olarak pişirecektir. Pişirdikten sonra hava fritözü manuel mod ekranına girecektir.

Notlar: 1. Bulut tariflerini uygularken, programlama işlevini seçebilirsiniz.

2. Aşağıdaki durumlarda bulut tariflerini uygulayamazsınız:

- 1) Hava fritözü veya ekranı kapalıdır. 2) Wi-Fi bağlantısı yok. 3) Hava fritözü pişiyor, sıcak tutuyor veya programlı moda. 4) Sepet dışarı çekilmiş.

8. Hata iletileri

- Hava fritözü bir hata tespit ettiğinde, ekranda "E1" veya "E2" görüntülenir ve hava fritözü üç kısa bip sesi çıkarır.

Temizlik ve Bakım

Hava fritözünü temizlemeden ve bakımını yapmadan önce güç kablosunu prizden çekin ve devam etmeden önce güvenli bir sıcaklığa soğumasını bekleyin. Hava fritözünü temizlerken lütfen sepeti hava fritözünden çıkarın.

- Hava fritözü yüzeyi:

Hava fritözünün yüzeyi, kuru ve yumuşak bir bezle ya da nötr bir temizleme deterjanıyla nemlendirilmiş bir süngerle silinebilir.

- Boşluk:

Hava fritözünün içindeki lekeleri çıkarmak için, sıcak suyla seyreltilmiş uygun miktarda deterjanı yüzeyine sürün ve yaklaşık on dakika bekletin, ardından deterjan kalıntısını silmek için suyla nemlendirilmiş yumuşak bir sünger kullanın.

- Sepet:

Her kullanımdan sonra hava fritözünü temizleyin. Hava fritözünün sepeti kaplanmıştır, bu sebeple kaplamaya zarar verebileceği için temizleme işleminde bulaşık teli ya da diğer aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın.

- Kızartma tepsisi ve ızgara:

Yumuşak, pamuklu bir bez veya nötr deterjanla nemlendirilmiş sünger kullanarak silip temizleyin, ardından deterjan kalıntısını silmek için suyla nemlendirin.

Not: Kızartma tepsisi ve ızgara ayrılabilir ve temizlik için bulaşık makinesine yerleştirilebilir; sepet suda yıkanabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir; ama hava fritözü suda yıkanamaz veya bulaşık makinesinde yıkanamaz.

Temizlik Önlemleri

1. Hava fritözünü kullandıktan sonra, lütfen elektrik fişini zamanında çıkarın ve hava fritözünü ateş kaynağının yakınına koymayın veya suya daldırmayın. Fişin hava fritözünün yüzeyini çizmesini önlemek için, elektrik fişini doğrudan hava fritözünün üzerine koymayın.
2. Temizlik ve bakım yalnızca hava fritözünü soğuduktan sonra yapılmalıdır.
3. Aşındırıcı veya yıpratıcı temizlik malzemelerini veya deterjanları kullanmayın.

Not: Hava fritözünün düzenli olarak temizlenmesi ve bakımı, servis ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.

Bakım İpuçları


- Hava fritözünü yalnızca profesyonel eğitim almış ve kalifiye teknisyenler tamir etmelidir.
- Ciddi sonuçları önlemek adına diğer kişiler, hava fritözünü izin almadan tamir etmemelidir.
- Hava fritözü anormal çalıştığında, satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçmeden önce lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın.
- Eğer sorun çözülemezse, lütfen güç kablosunu çıkarın, bağlantısını kesin ve satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.

Sorun Giderme

Sorun	Olası Nedenler	Çözümler
Hava fritözü çalışmıyor.	Hava fritözü bir güç kaynağına bağlı değil.	Güç kablosunu topraklı bir elektrik prizine takın.
	Sepet yerine sığmıyor.	Sepeti dışarı çekin ve yerine geri itin.
Ekranında E1 görüntülenir.	Sensörde arızalı bir devre var.	Satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.
Ekranında E2 görüntülenir.	Sensörde bir kısa devre var.	Satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.
Fan dönmüyor.	Fan kanadı sıkışmış.	Satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.
	Motor hasarlı veya diğer bileşenlerde bir arızalı devre var.	Satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.
Beyaz duman çıkıyor.	Yağlı malzemeleri pişiriyor.	Çok fazla yağ içeren malzemeleri kızarttığınızda, daha fazla duman çıkacaktır, bu normaldir.
	Hava fritözünde hâlâ önceki pişirme programından kalan yağ kalıntısı var.	Her pişirme programından sonra hava fritözünü temizlediğinizden emin olun.
Sepeti hava fritözüne düzgün bir şekilde yerleştiremiyorum.	Sepette çok fazla malzeme var.	Sepetteki malzemeler maksimum işaretini geçemez.
	Sepet doğru şekilde takılmamış.	Sepeti doğru şekilde yerleştirin.
Programlama işlevi istendiği gibi çalışmıyor.	Planlanan süre çok kısa.	Planlanan süre pişirme süresinden daha uzun olmalı.
	Planlanan zaman kaydedilmedi.	Planlanan süre kaydedilmeli ve kontrol düğmesine basılarak gerçekleştirilmelidir.
Wi-Fi bağlanamıyor.	Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını en güncel sürüm değil.	Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını en güncel sürüme güncelleyin.
	Wi-Fi sinyali zayıf.	Sinyalin yeterince güçlü olduğu bir yere taşıyın.
Hava fritözü bağlanamıyor.	Wi-Fi bağlanamıyor.	Wi-Fi'nin normal şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin veya yeniden bağlanmak için Wi-Fi'yı sıfırlayın.

Elektrik Şeması

- ① LCD Ekran
- ② Güvenlik Anahtarı
- ③ Kontrol Paneli
- ④ Isıtma Ögesi
- ⑤ Sigorta
- ⑥ Motor
- ⑦ Sigorta
- ⑧ Enerji Panosu



Teknik Özellikler

Ad: Fırın (Hava Fritözü)	Kapasite: 6,5 L	Renk: Siyah
Model: MAF10	Nominal Frekans: 50–60 Hz	Net Ağırlık: 5,4 kg
Nominal Güç: 1800 W	Nominal Voltaj: 220–240 V~	Brüt Ağırlık: 6,5 kg
Maksimum Çıkış Gücü: <20 dBm	Paket Boyutları: 425 × 330 × 355 mm	
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ila 40 °C	İşlem Frekansı: 2412–2472 MHz	
Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		

Normal koşullar altında, bu ekipman için anten ile kullanıcı arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.



İşbu belge ile Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi Fırın (Hava Fritözü) MAF10 ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen www.mi.com/global/service/userguide adresine gidin



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarını, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Üretici: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(Mi Ekosisteminde yer alan şirketlerden biri)
Adres: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin

Kullanım Kılavuzu Sürümü: V1.0

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo.

Cảm ơn quý khách đã chọn Nồi chiên không dầu thông minh Xiaomi 6,5L. Sản phẩm này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình.

Minh họa về sản phẩm, phụ kiện và giao diện người dùng trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm và chức năng thực tế có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm.

Hướng dẫn an toàn

- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị trừ khi lớn hơn 8 tuổi và có sự giám sát.
- Vui lòng để nồi chiên không dầu và dây nguồn ngoài tầm tay trẻ em dưới 8 tuổi.
- Chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình.
- Nếu dây nguồn bị hỏng hoặc bị đứt thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ sau bán hàng để tránh các nguy cơ về an toàn.
- Nhiệt độ của bề mặt có thể chạm vào có thể tăng lên trong khi nồi chiên không dầu đang hoạt động.
- Bề mặt sẽ dễ nóng lên trong khi sử dụng nồi chiên không dầu.
- Không nên vận hành nồi chiên không dầu thông qua bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc điều khiển từ xa riêng biệt.
- Không chặn lỗ không khí vào và lỗ thoát khí của nồi chiên không dầu cũng như các lỗ thông hơi tản nhiệt trong quá trình sử dụng để tránh ảnh hưởng đến quá trình tản nhiệt thông thường của nó.
- Các kỹ thuật viên không được đào tạo chuyên nghiệp không được sửa hệ thống dây nguồn bên trong của nồi chiên không dầu.
- Không sử dụng than hoặc các nguồn nhiên liệu tương tự khác để làm nóng rô, đĩa chiên hoặc vỉ nướng.
- Không đặt rô trên bất kỳ nguồn nhiệt nào khác, chẳng hạn như bếp từ hoặc bếp ga.
- Không cắm hoặc rút dây nguồn khi tay ướt để tránh nguy cơ bị điện giật.
- Không sử dụng dây nguồn có kết nối lỏng lẻo hoặc tiếp xúc kém.


- Không để dây nguồn xuyên qua các vật sắc nhọn để tránh làm hỏng dây nguồn.
- Không sử dụng nồi chiên không dầu để chứa bất kỳ vật dụng nào, đặc biệt là các vật dụng dễ cháy, nổ hoặc ăn mòn.
- Không kẹp, bẻ cong, xoắn hoặc đặt các vật nặng quá mức lên dây nguồn để tránh làm hở hoặc đứt lõi dây.
- Ngừng sử dụng nồi chiên không dầu ngay lập tức và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện nếu nó không hoạt động bình thường hoặc bị trục trặc.
- Không thể khởi động nồi chiên không dầu nếu không có rổ bên trong.
- Không chạm tay trực tiếp vào rổ trong hoặc ngay sau khi sử dụng để tránh bị bỏng.
- Không để trẻ em đến gần hoặc chơi với màng bọc và bao bì để tránh tai nạn ngạt thở.
- Không sử dụng bất kỳ vật dụng nào bằng nhựa hoặc vật liệu giấy gói thông thường để bọc thực phẩm khi nấu.
- Không làm rơi nồi chiên không dầu này hoặc va chạm vào vật cứng để tránh làm hư hỏng hoặc bị trục trặc.
- Không cắm ghim, dây hoặc các vật khác vào bất kỳ khe hở nào của nồi chiên không dầu để tránh bị điện giật hoặc bị thương.
- Không sử dụng bất kỳ phụ kiện nào không được nhà sản xuất khuyến nghị.
- Phạm vi độ cao hoạt động bình thường của sản phẩm này là 0–2000 mét.
- Giữ khoảng cách từ 30 cm trở lên giữa lỗ thoát khí và các thiết bị khác trong quá trình sử dụng.
- Không di chuyển hoặc lắc nồi chiên không dầu trong quá trình sử dụng.
- Không nhét bất kỳ vật lạ nào vào công tắc an toàn để tránh gây nguy hiểm.
- Khi đặt nồi chiên không dầu trong tủ bếp, v.v., hãy đảm bảo rằng nó được thông gió tốt.
- Hãy nhớ rút phích cắm của nồi chiên không dầu trước khi vệ sinh hoặc sửa chữa nó.
- Sản phẩm này phải được sử dụng trên bề mặt bằng phẳng, chịu nhiệt để tránh tai nạn hoặc làm hỏng sản phẩm.

- Đảm bảo rằng các bộ phận silicone của nồi chiên không dầu không tiếp xúc với ethanol hoặc các dung dịch có nồng độ cồn trên 50%.
- Hãy đảm bảo nồi chiên không dầu được cắm vào ổ cắm điện được nối đất tốt để tránh bị điện giật hoặc các nguy cơ an toàn khác.



CẢNH BÁO: Bề mặt nóng.

Tổng quan về sản phẩm



Lưu ý: 1. Cao su silicone trên đĩa chiên được làm bằng vật liệu cấp thực phẩm chịu nhiệt độ cao để ngăn các cạnh của đĩa chiên không làm xước lớp phủ của rổ và cải thiện độ ổn định của đĩa chiên. Không tháo cao su silicone ra khỏi đĩa chiên.
2. Nguyên liệu quá nhỏ sẽ không thích hợp để sử dụng trên vỉ nướng. Hãy đảm bảo rằng nguyên liệu không bị rơi qua các khe hở trên vỉ nướng.

Nút điều khiển



1. Nhấn để xác nhận lựa chọn.



2. Nhấn và giữ trong 1 giây để quay lại trình đơn trước.



3. Xoay trái/phải để thay đổi các chức năng.



4. Nhấn nút nguồn để bật/tắt.

Cách sử dụng

Kết nối dây nguồn và nhấn nút nguồn để bật nồi chiên không dầu.

Lưu ý: 1. Khi lần đầu tiên bật nồi chiên không dầu, hãy nhấn nút nguồn và chuyển đến màn hình lựa chọn ngôn ngữ, xoay nút điều khiển sang ngôn ngữ mong muốn, sau đó nhấn nút điều khiển để xác nhận lựa chọn.
2. Nồi chiên không dầu có thể có mùi nhẹ trong lần sử dụng đầu tiên. Bạn nên nấu nồi chiên không dầu với rổ trống ở nhiệt độ tối đa (220°C) trong năm phút để loại bỏ mùi. Nồi chiên không dầu có thể phát ra một ít khói trắng hoặc mùi khi nấu với rổ trống, đây là hiện tượng bình thường.

Đang bật

Kết nối dây nguồn và nhấn nút nguồn để bật nồi chiên không dầu.

Đang tắt





Nhấn nút nguồn để tắt nồi chiên không dầu, bất kể trạng thái của nó là gì.



Cấu hình Wi-Fi

- **Đặt lại Wi-Fi:**
Nhấn nút điều khiển để vào "Reset Wi-Fi" khi đang ở màn hình "Wi-Fi", sau đó nhấn nút điều khiển để chọn Yes để đặt lại Wi-Fi hoặc xoay nút điều khiển để chọn No để bỏ đặt lại Wi-Fi.
- **Bật/Tắt Wi-Fi:**
Nhấn nút điều khiển để vào "Enable/Disable Wi-Fi?" khi đang ở màn hình "Wi-Fi", sau đó nhấn nút điều khiển để chọn Yes để bật hoặc tắt Wi-Fi hoặc xoay nút điều khiển để chọn No để bỏ thay đổi.

Đèn chỉ báo trạng thái Wi-Fi

			
Đang chờ kết nối nhanh...	Đang kết nối lại sau khi ngắt kết nối...	Đã kết nối thành công	Đang cập nhật...
Đèn chỉ báo Wi-Fi nhấp nháy chậm	Đèn chỉ báo Wi-Fi nhấp nháy nhanh	Đèn chỉ báo Wi-Fi ổn định	Đèn chỉ báo Wi-Fi nhấp nháy nhanh

Lưu ý: Nếu trong 30 phút, nồi chiên không dầu không kết nối với Wi-Fi, đèn chỉ báo Wi-Fi sẽ tắt.

Cập nhật chương trình cơ sở

Khi bạn cập nhật chương trình cơ sở thông qua ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home, màn hình sẽ hiển thị quá trình cập nhật đang diễn ra và nồi chiên không dầu sẽ tự động khởi động lại khi quá trình cập nhật hoàn tất.

Lưu ý: Ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home sẽ có thể cập nhật chương trình cơ sở trừ khi nồi chiên không dầu hoặc màn hình của nó bị tắt hoặc Wi-Fi bị ngắt kết nối. Không thể thực hiện các thao tác khác khi đang cập nhật chương trình cơ sở.

Đang kết nối với Ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home

Sản phẩm này hoạt động với ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home*. Điều khiển thiết bị của bạn với ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home.



- Quét mã QR để tải xuống và cài đặt ứng dụng. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thiết lập kết nối nếu ứng dụng đã được cài đặt. Hoặc tìm kiếm "Mi Home/Xiaomi Home" trong cửa hàng ứng dụng để tải xuống và cài đặt ứng dụng.
- Mở ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home, nhấn "+" ở góc trên cùng bên phải, và sau đó làm theo lời nhắc để thêm thiết bị của bạn.

* Ứng dụng này có tên là ứng dụng Xiaomi Home tại Châu Âu (trừ Nga). Cần thiết đặt tên ứng dụng được hiển thị trên thiết bị của bạn làm tên mặc định.

Lưu ý: Phiên bản ứng dụng có thể đã được cập nhật, vui lòng làm theo các hướng dẫn trên phiên bản ứng dụng hiện tại.

Đang nấu

Chuẩn bị

Nguyên liệu có thể được tẩm ướp gia vị cho vừa ăn trước khi nấu.

Bắt đầu chương trình nấu

1. Đặt nồi chiên không dầu trên bề mặt ổn định, bằng phẳng và đảm bảo có không khí lưu thông xung quanh nồi chiên không dầu.

2. Đặt đĩa chiên vào trong rổ và cho từng nguyên liệu vào. Nếu có nhiều nguyên liệu hơn, hãy dùng vỉ nướng để xếp chúng theo lớp.

Lưu ý: Sẽ ảnh hưởng đến quá trình nướng nếu xếp nguyên liệu theo lớp mà không dùng vỉ nướng.

3. Khi rổ được đẩy hoàn toàn vào nồi chiên không dầu, xoay và nhấn nút điều khiển để chọn chế độ thủ công hoặc công thức được cài đặt sẵn (sữa chua, cánh gà, khoai tây chiên, v.v.), xoay và nhấn nút điều khiển để cài đặt chế độ (nướng giòn/khử mỡ, được hỗ trợ bởi một số công thức nhất định), số lượng nguyên liệu (một lớp/hai lớp), nhiệt độ và thời gian, và nhấn nút điều khiển để bắt đầu chương trình nấu và đếm ngược thời gian nấu. Đối với chương trình nấu đã lên lịch trình, nồi chiên không dầu sẽ tự động bắt đầu nấu vào thời điểm thích hợp để đảm bảo hoàn thành quá trình nấu vào thời gian đã lên lịch trình.

Lưu ý:

1. Có thể điều chỉnh thời gian và nhiệt độ nấu bằng cách xoay nút điều khiển trong khi nấu, ngoại trừ nấu sữa chua. Khi nấu ở chế độ khử mỡ, bạn chỉ có thể chỉnh được thời gian nấu chứ không chỉnh được nhiệt độ nấu.
2. Khi bạn xoay nút điều khiển để điều chỉnh thời gian hoặc nhiệt độ nấu, bạn cần nhấn vào nút điều khiển để xác nhận, nếu không nồi chiên không dầu sẽ tiếp tục nấu theo cài đặt ban đầu sau năm giây.
3. Bạn không thể thay đổi công thức khi đang nấu.

4. Không cần đảo nguyên liệu trong khi nấu (trừ khi bạn đang nấu khoai tây chiên). Khi bạn đã chọn hơn 500g khoai tây chiên, sẽ có lời nhắc đảo nguyên liệu sau nửa thời gian nấu. Làm theo lời nhắc để kéo rổ ra để đảo nguyên liệu, sau đó đặt hoàn toàn rổ trở lại nồi chiên không dầu và nhấn nút điều khiển để tiếp tục nấu.

5. Nồi chiên không dầu sẽ phát ra tiếng bíp và "Completed" sẽ xuất hiện trên màn hình để cho biết rằng chương trình nấu đã hoàn thành (đối với một số công thức, nồi chiên không dầu sẽ chuyển sang trạng thái hâm và hiển thị "Keeping warm..."). Cần thận lấy rổ ra và dùng kẹp để lấy thức ăn ra.

CẢNH BÁO: Khi nấu xong, rổ rất nóng, vì vậy không được chạm vào để tránh bị bỏng.

Thao tác khác

1. Cài đặt ngôn ngữ

- Bật nồi chiên không dầu, vào cài đặt và nhấn nút điều khiển để vào màn hình lựa chọn ngôn ngữ.
- Xoay nút điều khiển sang ngôn ngữ mong muốn và nhấn nó để xác nhận.

2. Chế độ thủ công

- Khi bật nồi chiên không dầu, nhấn nút điều khiển để vào chế độ thủ công, sau đó xoay nút điều khiển đến nhiệt độ nấu mong muốn, nhấn nút điều khiển để đặt thời gian và xoay nút điều khiển đến thời gian nấu mong muốn, và cuối cùng nhấn nút điều khiển để bắt đầu chương trình nấu thủ công.

3. Điều chỉnh nhiệt độ/thời gian

- Nhiệt độ có thể được điều chỉnh trong khoảng từ 40°C đến 220°C. Thời gian có thể được điều chỉnh trong khoảng 0–24 giờ.
- Khi điều chỉnh thời gian nấu hoặc thời gian hoàn thành theo lịch trình, hãy chú ý đến tốc độ mà bạn xoay nút điều khiển. Khi khoảng thời gian điều chỉnh ≥ 60 phút, xoay nhanh nút điều khiển sẽ chỉnh được thời gian 60 phút, xoay chậm nút điều khiển sẽ chỉnh được 1 phút. Khi khoảng thời gian điều chỉnh < 60 phút, xoay nhanh nút điều khiển sẽ chỉnh được thời gian 10 phút, xoay chậm nút điều khiển sẽ chỉnh được 1 phút.
- Mỗi lần xoay nút điều khiển sẽ điều chỉnh nhiệt độ nấu 5°C.
- Nếu bạn điều chỉnh hoặc sửa đổi các thông số thời gian trong chương trình nấu theo công thức, khi nhiệt độ nấu nằm trong khoảng từ 80°C đến 220°C, thời gian nấu có thể điều chỉnh ≤ 1 giờ; khi nhiệt độ nấu $< 80^\circ\text{C}$, thời gian nấu có thể điều chỉnh ≤ 24 giờ.

4. Nấu theo lịch trình

- Nhấn nút điều khiển để chọn chức năng theo lịch trình, xoay nút điều khiển để chọn công thức đã lên lịch trình, sau đó cài đặt thời gian nấu và thời gian đã lên lịch trình. Nồi chiên không dầu sẽ tự động bắt đầu nấu vào thời điểm thích hợp để đảm bảo quá trình nấu hoàn tất vào thời gian đã lên lịch trình, sau đó chuyển sang trạng thái hâm hoặc kết thúc nấu sau khi hoàn tất.

Lưu ý:

1. Thời gian theo lịch trình phải dài hơn thời gian nấu nhưng ít hơn 24 giờ.
2. Thời gian theo lịch trình ở đây là thời gian hoàn thành theo lịch trình. Ví dụ khi màn hình hiển thị 02:40 có nghĩa là quá trình nấu sẽ hoàn thành trong vòng 2 giờ 40 phút.
3. Chức năng theo lịch trình không được hỗ trợ trong các chế độ sửa chua, trái cây sấy khô và rã đông.

5. Chức năng hâm

- Chức năng hâm được bật mặc định. Bạn có thể tắt nó trong cài đặt.
- Thời gian hâm là 30 phút, trong khi nhiệt độ hâm là 80°C. Hâm và thời gian của nó sẽ bị tạm dừng nếu kéo rổ ra. Nếu bạn đặt rổ trở lại trong vòng 3 phút, quá trình hâm sẽ tiếp tục tại cài đặt thời gian đã lưu. Nếu rổ không được đặt trở lại trong vòng 3 phút, quá trình hâm sẽ kết thúc và nồi chiên không dầu sẽ quay lại màn hình chính của công thức tương ứng.
CẢNH BÁO: Khi bật hâm và nhiệt độ nấu được đặt >80°C, hoạt động hâm sẽ được thực hiện sau khi nấu xong. Nếu không, nồi chiên không dầu sẽ trực tiếp kết thúc quá trình nấu bằng cách vào màn hình hoàn thành nấu.

6. Tạm dừng/Hủy nấu

- Khi nồi chiên không dầu ở chế độ nấu, nhấn nút điều khiển để tạm dừng nấu. Khi nồi chiên không dầu đang nấu hoặc tạm dừng, hãy nhấn và giữ nút điều khiển trong một giây để vào màn hình hủy nấu. Chọn Yes để hủy nấu và vào màn hình chế độ thủ công.
CẢNH BÁO: Trong quá trình nấu, bạn có thể xoay nút điều khiển để điều chỉnh các thông số về nhiệt độ và thời gian. Các số tương ứng sẽ nhấp nháy trong quá trình điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh xong, nhấn nút điều chỉnh để xác nhận các thông số mới.

7. Chế độ công thức trên đám mây

- Nếu bạn chọn và thực hiện công thức trên đám mây bằng ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home, nồi chiên không dầu sẽ tự động nấu theo công thức. Sau khi nấu, nồi chiên không dầu sẽ vào màn hình chế độ thủ công.

Lưu ý: 1. Khi thực hiện công thức trên đám mây, bạn có thể chọn chức năng lịch trình.

2. Bạn không thể thực hiện công thức trên đám mây trong các trường hợp sau:

- 1) Nồi chiên không dầu hoặc màn hình của nó bị tắt.
- 2) Không có kết nối Wi-Fi.
- 3) Nồi chiên không dầu đang nấu, hâm hoặc ở chế độ theo lịch trình.
- 4) Rổ đã được kéo ra.

8. Thông báo lỗi

- Khi nồi chiên không dầu phát hiện lỗi, màn hình sẽ hiển thị "E1" hoặc "E2" và nồi chiên không dầu sẽ phát ra ba tiếng bíp ngắn.

Vệ sinh và Bảo trì

Trước khi vệ sinh và bảo trì nồi chiên không dầu hãy rút dây nguồn và đợi nó nguội đến nhiệt độ an toàn rồi mới tiến hành. Vui lòng tháo rổ ra khỏi nồi chiên không dầu khi vệ sinh nồi chiên không dầu.

- Bề mặt nồi chiên không dầu:

Bề mặt của nồi chiên không dầu có thể được lau bằng vải khô, mềm hoặc miếng bọt biển được làm ẩm bằng chất tẩy rửa trung tính.

- Lỗ trống:

Để loại bỏ các vết bẩn từ bên trong nồi chiên không dầu, hãy thoa một lượng chất tẩy rửa thích hợp pha loãng trong nước nóng lên bề mặt của nó và để trong khoảng mười phút, sau đó sử dụng một miếng bọt biển mềm thấm nước để lau sạch cặn của chất tẩy rửa.

- Rổ:

Vệ sinh nồi chiên không dầu sau mỗi lần sử dụng. Rổ của nồi chiên không dầu được tráng phủ, do đó không sử dụng bất kỳ vật liệu mài mòn kim loại hoặc vật liệu tẩy rửa ăn mòn khác để vệ sinh vì chúng có thể làm hỏng lớp phủ.

- Đĩa chiên, vỉ nướng:

Bạn có thể dùng khăn bông mềm hoặc miếng bọt biển thấm chất tẩy rửa trung tính để lau sạch, sau đó thấm nước để lau sạch cặn của chất tẩy rửa.

Lưu ý: Đĩa chiên và vỉ nướng có thể được tách rời và làm sạch trong máy rửa chén; rổ có thể được rửa trong nước, và có thể được làm sạch trong máy rửa chén; tuy nhiên, nồi chiên không dầu không thể được rửa trong nước cũng như không thể được làm sạch trong máy rửa chén.

Thận trọng khi vệ sinh

1. Sau khi sử dụng nồi chiên không dầu, vui lòng rút phích cắm điện và không đặt nồi chiên không dầu gần nguồn lửa cũng như nhúng vào nước. Không đặt phích cắm điện trực tiếp lên nồi chiên không dầu để tránh làm xước bề mặt của nó.

2. Chỉ nên vệ sinh và bảo trì sau khi nồi chiên không dầu nguội.

3. Không sử dụng bất kỳ vật liệu tẩy rửa hoặc chất tẩy rửa nào có tính ăn mòn hoặc mài mòn.

Lưu ý: Việc vệ sinh và bảo trì nồi chiên không dầu thường xuyên sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của nó.

Mẹo bảo trì

- Chỉ những kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp và có trình độ mới được sửa chữa nồi chiên không dầu.

- Những người khác không nên tự ý sửa chữa nồi chiên không dầu để tránh những hậu quả nghiêm trọng.

- Khi nồi chiên không dầu hoạt động bất thường, vui lòng tham khảo Xử lý sự cố trước khi liên hệ với đội ngũ dịch vụ sau bán hàng.


- Nếu sự cố không thể được giải quyết, vui lòng rút dây nguồn, ngắt kết nối và liên hệ với đội ngũ dịch vụ sau bán hàng.

Xử lý sự cố

Vấn đề	Những nguyên nhân có thể gây ra vấn đề	Giải pháp
Nồi chiên không dầu không hoạt động.	Nồi chiên không dầu chưa được cắm vào nguồn điện.	Cắm dây nguồn vào ổ cắm điện được nối đất.
	Rổ không được đẩy vào.	Kéo rổ ra và đẩy nó trở lại vị trí cũ.
Màn hình hiển thị E1.	Cảm biến bị đứt mạch.	Liên hệ với đội ngũ dịch vụ sau bán hàng.
Màn hình hiển thị E2.	Cảm biến bị chập mạch.	Liên hệ với đội ngũ dịch vụ sau bán hàng.
Quạt không xoay.	Cánh quạt bị kẹt.	Liên hệ với đội ngũ dịch vụ sau bán hàng.
	Động cơ bị hỏng hoặc các bộ phận khác bị đứt mạch.	Liên hệ với đội ngũ dịch vụ sau bán hàng.
Khói trắng đang bốc ra.	Nấu các nguyên liệu nhiều dầu mỡ.	Sẽ có nhiều khói khi bạn chiên các nguyên liệu chứa nhiều dầu mỡ, điều này là bình thường.
	Nồi chiên không dầu vẫn còn cặn dầu mỡ từ chương trình nấu trước đó.	Đảm bảo rằng bạn làm sạch nồi chiên không dầu sau mỗi chương trình nấu.
Không thể lắp rổ vào nồi chiên không dầu một cách trơn tru.	Quá nhiều nguyên liệu trong rổ.	Các nguyên liệu trong rổ không được vượt quá vạch tối đa.
	Rổ không được lắp đúng cách.	Chèn rổ đúng cách.
Chức năng theo lịch trình không hoạt động theo yêu cầu.	Thời gian theo lịch trình quá ngắn.	Thời gian theo lịch trình phải dài hơn thời gian nấu.
	Thời gian theo lịch trình chưa được lưu.	Thời gian theo lịch trình phải được lưu và thực hiện bằng cách nhấn vào nút điều khiển.
Không thể kết nối Wi-Fi.	Ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home chưa lên phiên bản mới nhất.	Cập nhật ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home lên phiên bản mới nhất.
	Tín hiệu Wi-Fi yếu.	Di chuyển đến vị trí có tín hiệu đủ mạnh.
Không thể kết nối nồi chiên không dầu.	Không thể kết nối Wi-Fi.	Kiểm tra xem Wi-Fi có được kết nối bình thường hay không hoặc đặt lại Wi-Fi để kết nối lại.

Sơ đồ mạch điện

- ① Màn hình LCD
- ② Công tắc an toàn
- ③ Bảng điều khiển
- ④ Phần tử làm nóng
- ⑤ Cầu chì
- ⑥ Động cơ
- ⑦ Cầu chì
- ⑧ Bảng điện



Thông số kỹ thuật

Tên: Lò nướng (Nồi chiên không dầu)	Dung tích: 6,5L	Màu sắc: Đen
Model: MAF10	Tần số định mức: 50–60 Hz	Trọng lượng tịnh: 5,4 kg
Công suất định mức: 1800 W	Điện áp định mức: 220–240 V~	Tổng trọng lượng: 6,5 kg
Công suất đầu ra tối đa: <20 dBm	Kích thước bao bì: 425 × 330 × 355 mm	
Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến 40°C	Tần số vận hành: 2412–2472 MHz	
Khả năng kết nối không dây: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		

Trong điều kiện hoạt động bình thường, cần giữ khoảng cách tối thiểu là 20 cm giữa ăng-ten của thiết bị này với cơ thể của người dùng.



Qua tài liệu này, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. tuyên bố rằng loại thiết bị vô tuyến Lò nướng (Nồi chiên không dầu) MAF10 tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU. Toàn bộ nội dung của tuyên bố về sự phù hợp với EU có sẵn tại địa chỉ internet sau: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Để xem bản hướng dẫn sử dụng điện tử chi tiết, vui lòng truy cập www.mi.com/global/service/userguide



Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là rác thải thiết bị điện và điện tử (WEEE như trong 2012/19/EU), không nên vứt bỏ chúng cùng với rác thải sinh hoạt chưa phân loại. Thay vào đó, để bảo vệ môi trường và sức khỏe của mọi người, bạn nên mang thiết bị thải loại đến điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải thiết bị điện và điện tử, do chính quyền hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc tái chế và xử lý vứt bỏ đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm tàng đối với môi trường và sức khỏe của con người. Vui lòng liên hệ với bên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của điểm thu gom.

Sản xuất cho: Xiaomi Communications Co., Ltd.
 Nhà sản xuất: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
 (một công ty thuộc Hệ sinh thái Mi)
 Địa chỉ: No.558, Weier Road, Andong Industrial Zone,
 Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
 Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.mi.com

Hướng dẫn sử dụng phiên bản V1.0

Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen. Bedankt dat u heeft gekozen voor de Xiaomi Smart Airfryer 6,5L. Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Afbeeldingen van het product, accessoires en UI in de gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functionaliteit kunnen variëren door productverbeteringen.

Veiligheidsinstructies

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren hiervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat mag niet worden schoongemaakt of onderhouden door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Houd de airfryer en het snoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Als het snoer beschadigd of kapot is, moet dit vervangen worden door de fabrikant of after-sales serviceafdeling om veiligheidsrisico's te voorkomen.
- De temperatuur van het aanraakbare oppervlak kan omhoog gaan als de airfryer in gebruik is.
- Het oppervlak warmt gemakkelijk op als de airfryer in gebruik is.
- De airfryer mag niet gebruikt worden met een externe timer of aparte afstandsbediening.
- De luchtinvoer en -uitlaat van de airfryer niet blokkeren, noch de ventilatieopeningen tijdens het gebruik om de normale warmteafvoer niet aan te tasten.
- Monteurs die niet professioneel zijn opgeleid mogen de interne bedrading van de airfryer niet wijzigen.
- Gebruik geen houtskool of andere soortgelijke brandstofbronnen om het mandje, de bakplaat of grill te verwarmen.
- Plaats het mandje niet op andere warmtebronnen zoals een inductiekookplaat of gasfornuis.
- Het snoer niet met natte handen aansluiten of loskoppelen, om het risico op een elektrische schok te vermijden.
- Gebruik geen snoer met een losse stekker of een slecht contact.


- Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met scherpe voorwerpen om schade aan het snoer te voorkomen.
- Gebruik de airfryer niet om voorwerpen in op te bergen, met name brandbare, explosieve, of bijtende voorwerpen.
- Knijp, buig of draai het snoer niet te veel, en plaats geen zware voorwerpen op het snoer om te voorkomen dat de kern wordt blootgesteld of breekt.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van de airfryer en trek de stekker uit het stopcontact als deze niet normaal functioneert of defect is.
- De airfryer kan niet worden gestart zonder dat het mandje op zijn plaats zit.
- Raak het mandje niet rechtstreeks aan met uw handen tijdens het gebruik of direct erna om brandwonden te voorkomen.
- Houd kinderen uit de buurt van de folie en verpakking en laat ze hier niet mee spelen om ongelukken door verstikking te voorkomen.
- Gebruik geen plastic keukengerei of veel gebruikte papieren verpakkingsmateriaal om voedsel in te pakken om te koken.
- Laat de airfryer niet vallen en stoot deze niet tegen harde voorwerpen om schade of defecten te voorkomen.
- Steek geen pinnen, draden of andere voorwerpen in de openingen van de airfryer om een elektrische schok of letsel te voorkomen.
- Gebruik geen accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant.
- Het normale bereik van dit product is 0–2000 meter.
- Houd tijdens het gebruik een ruimte van 30 cm of meer vrij tussen de luchtuitlaat en andere apparaten.
- De airfryer tijdens het gebruik niet verplaatsen of schudden.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de veiligheidsschakelaar om gevaar te voorkomen.
- Als u de airfryer in een keukenkastje e.d. plaatst, zorg er dan voor dat er voldoende ventilatie is.
- Zorg ervoor dat u de stekker van de airfryer uit het stopcontact trekt voordat u deze schoonmaakt of repareert.
- Dit product moet gebruikt worden op een vlakke, hittebestendige ondergrond om schade aan het product of ongelukken te voorkomen.

- Zorg ervoor dat de siliconen onderdelen van de airfryer niet in contact komen met ethanol of oplossingen die meer dan 50% alcohol bevatten.
- Zorg ervoor dat het stopcontact waarop de airfryer is aangesloten goed geaard is om elektrische schokken of andere veiligheidsrisico's te voorkomen.



WAARSCHUWING: Hete oppervlakken.

Productoverzicht



Opmerkingen: 1. Het siliconen rubber dat wordt gebruikt in de bakplaat, is gemaakt van hittebestendige materialen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen om te voorkomen dat de randen van de bakplaat de coating van het mandje bekrassen en om de stabiliteit van de bakplaat te verbeteren. Het siliconen rubber niet verwijderen van de bakplaat.
 2. Ingrediënten die te klein zijn, zijn niet geschikt voor gebruik op de grill. Zorg ervoor dat er geen ingrediënten door de openingen in de grill vallen.

Bedieningsknop



1 Indrukken om de selectie te bevestigen.



2 1 seconde ingedrukt houden om terug te keren naar het vorige menu.



3 Naar links/rechts draaien om functies te wijzigen.



4 De aan-/uitknop indrukken om in/uit te schakelen.

Hoe te gebruiken

Steek het netsnoer in het stopcontact en druk op de aan-/uitknop om de airfryer in te schakelen.

Opmerkingen: 1. Wanneer de airfryer voor de eerste keer wordt ingeschakeld, druk op de aan-/uitknop en ga naar het taalselectiescherm, draai de bedieningsknop naar de gewenste taal en druk vervolgens op de bedieningsknop om de selectie te bevestigen.
 2. De airfryer kan een lichte geur afgeven wanneer deze voor het eerst wordt gebruikt. Het wordt aanbevolen om de airfryer met een leeg mandje vijf minuten op maximale temperatuur (220 °C) te laten werken om de geur te verwijderen. De airfryer kan een kleine hoeveelheid witte rook of een geur afgeven als deze met een leeg mandje werkt, wat normaal is.

Inschakelen

Steek het netsnoer in het stopcontact en druk op de aan-/uitknop om de airfryer in te schakelen.

Uitschakelen

Druk op de aan-/uitknop om de airfryer uit te zetten, ongeacht in welke toestand het apparaat verkeerd.



De Wifi configureren

- De Wifi resetten:

Druk op de bedieningsknop om "Wifi resetten" te openen terwijl u in het "Wifi"-scherm bent, druk vervolgens op de bedieningsknop om Ja te selecteren om de Wifi te resetten, of draai de bedieningsknop om Nee te selecteren om het resetten van de Wifi af te breken.

- De Wifi inschakelen/uitschakelen:

Druk op de bedieningsknop om "Wifi inschakelen/uitschakelen?" te openen terwijl u in het "Wifi"-scherm bent, druk vervolgens op de bedieningsknop om Ja te selecteren om de Wifi in of uit te schakelen, of draai de bedieningsknop om Nee te selecteren om de wijziging af te breken.

Wifi-status indicatielampje

			
In afwachting van een snelle verbinding...	Opnieuw verbinding maken nadat de verbinding is verbroken...	Met succes verbonden	Bezig met bijwerken...
Wifi indicatielampje knippert langzaam	Wifi indicatielampje knippert snel	Wifi indicatielampje blijft branden	Wifi indicatielampje knippert snel

Opmerking: Wanneer de airfryer gedurende 30 minuten geen verbinding maakt met de Wifi, zal het Wifi indicatielampje uitgaan.

Firmware-update

Wanneer u de firmware update via de Mi Home/Xiaomi Home-app, geeft het scherm aan dat er een update wordt uitgevoerd en de airfryer wordt automatisch opnieuw gestart wanneer de update voltooid is.

Opmerking: De Mi Home/Xiaomi Home-app kan de firmware updaten tenzij de airfryer of het scherm ervan is uitgeschakeld, of als er geen Wifi-verbinding is. Andere bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd wanneer de firmware wordt geüpdatet.

Verbinding maken met de Mi Home/Xiaomi Home-app

Dit product is te gebruiken met de Mi Home/Xiaomi Home-app*. Bedien je apparaat met de Mi Home/Xiaomi Home-app.



67CE8213

- Scan de QR-code om de app te downloaden en installeren. U wordt doorverwezen naar de pagina voor verbindinginstellingen als de app al is geïnstalleerd. Of ga naar de appstore om de Mi Home/Xiaomi Home-app te downloaden en installeren.
- Open de Mi Home/Xiaomi Home-app, tik rechtsboven op "+" en volg de aanwijzingen om uw apparaat toe te voegen.

* In Europa wordt de naam Xiaomi Home-app gebruikt (met uitzondering van Rusland). De naam van de app die op uw apparaat wordt weergegeven, moet als standaard worden gebruikt.

Opmerking: De versie van de app kan zijn geüpdatet, volg de instructies van de huidige app-versie.

Koken

Voorbereidingen

De ingrediënten kunnen naar smaak gemarineerd worden, alvorens deze te koken.

Een kookprogramma starten

1. Plaats de airfryer op een stabiele, vlakke ondergrond en zorg ervoor dat er luchtcirculatie is rondom de airfryer.

2. Plaats de bakplaat in het mandje en voeg de ingrediënten één voor één toe. Als er meer ingrediënten zijn, gebruik de grill om deze in lagen te plaatsen.

Opmerking: Ingrediënten in lagen plaatsen zonder de grill te gebruiken, heeft invloed op het kookproces.

3. Wanneer het mandje volledig in de airfryer is geplaatst, draai en druk op de bedieningsknop om de handmatige modus of het vooraf ingestelde recept (yoghurt, kippenvleugels, friet, enz.) te selecteren, draai en druk op de bedieningsknop om de modus (krokant grillen/vetvrij, ondersteund door bepaalde recepten), de hoeveelheid ingrediënten (één laag/dubbele laag), temperatuur en tijd in te stellen en druk op de bedieningsknop om het kookprogramma te starten en de kooktijd te laten aftellen. Voor een gepland kookprogramma begint de airfryer automatisch op het juiste moment met koken om ervoor te zorgen dat het koken op het geplande tijdstip is voltooid.

Opmerkingen:

1. De kooktijd en -temperatuur kunnen worden aangepast door de bedieningsknop te draaien tijdens het koken, behalve als u yoghurt kookt. Bij het koken in de vetvrije modus kunt u alleen de kooktijd aanpassen, niet de kooktemperatuur.
2. Zodra u de bedieningsknop draait om de kooktijd of -temperatuur aan te passen, moet u de bedieningsknop indrukken om te bevestigen, anders gaat de airfryer na vijf seconden door met het koken op de oorspronkelijke instellingen.
3. Tijdens het koken kunt u het recept niet wijzigen.

4. Ingrediënten hoeven niet omgedraaid te worden tijdens het koken (tenzij u friet bakt). Als u meer dan 500 g friet heeft geselecteerd, krijgt u een melding om de ingrediënten halverwege om te draaien. Volg de melding om het mandje eruit te halen om de ingrediënten om te draaien, plaats het mandje vervolgens volledig terug in de airfryer en druk op de bedieningsknop om door te gaan met koken.

5. De airfryer laat een pieptoon horen en "Voltooid" verschijnt op het scherm om aan te geven dat het kookprogramma voltooid is (voor sommige recepten gaat de airfryer naar de warmhoud-stand en geeft "Warm houden..." weer). Neem voorzichtig het mandje eruit en gebruik een tang om het voedsel te verwijderen.

WAARSCHUWING: Als het koken voltooid is, is het mandje erg heet, dus raak dit niet aan om brandwonden te voorkomen.

Andere bedieningen

1. Taalinstellingen

- Schakel de airfryer in, ga naar instellingen, en druk op de bedieningsknop om het taalselectiescherm te openen.
- Draai de bedieningsknop naar de gewenste taal en druk erop om te bevestigen.

2. Handmatige modus

- Als de airfryer is ingeschakeld, druk op de bedieningsknop om naar de handmatige modus te gaan, draai de bedieningsknop vervolgens naar de gewenste kooktemperatuur, druk op de bedieningsknop om de tijd in te stellen en draai de bedieningsknop naar de gewenste kooktijd, en druk tot slot op de bedieningsknop om het handmatige kookprogramma te starten.

3. Temperatuur/tijd aanpassen

- De temperatuur kan worden aangepast tussen 40 °C en 220 °C. De tijd kan worden aangepast tussen 0–24 uur.
- Let bij het aanpassen van de kooktijd of geplande eindtijd op de snelheid waarmee u aan de bedieningsknop draait. Als het aangepaste tijdsbereik ≥ 60 minuten is, zal door snel draaien van de bedieningsknop de tijd met 60 minuten worden aangepast, terwijl langzaam draaien van de bedieningsknop de tijd met 1 minuut zal aanpassen. Als het aangepaste tijdsbereik < 60 minuten is, zal door snel draaien van de bedieningsknop de tijd met 10 minuten worden aangepast, terwijl langzaam draaien van de bedieningsknop de tijd met 1 minuut zal aanpassen.
- De kooktemperatuur wordt met 5 °C aangepast voor elke draai aan de bedieningsknop.
- Als u de tijdparameters in het kookprogramma van het recept aanpast of wijzigt, is de instelbare kooktijd ≤ 1 uur wanneer de kooktemperatuur tussen 80 °C en 220 °C ligt en is de instelbare kooktijd ≤ 24 uur wanneer de kooktemperatuur < 80 °C is.

4. Gepland koken

- Druk op de bedieningsknop om de planningsfunctie te selecteren, draai de bedieningsknop om het geplande recept te selecteren, stel vervolgens de kooktijd en geplande tijd in. De airfryer begint automatisch op het juiste moment met koken om ervoor te zorgen dat het koken op het geplande tijdstip is voltooid, gaat vervolgens naar de warmhoud-stand of beëindigt het koken als het klaar is.

Opmerkingen:

1. De geplande tijd moet langer zijn dan de kooktijd, maar niet langer dan 24 uur.
2. De geplande tijd hier is de geplande eindtijd. Als het scherm bijvoorbeeld 02:40 weergeeft, betekent dit dat het koken binnen 2 uur en 40 minuten voltooid is.
3. De planningsfunctie wordt niet ondersteund in de modus voor yoghurt, gedroogd fruit en ontdooien.

5. Warmhoud-functie

- De warmhoud-functie is standaard ingeschakeld. U kunt het uitschakelen in de instellingen.
- De warmhoud-tijd is 30 minuten, terwijl de warmhoud-temperatuur 80 °C is. Het warmhouden en de timing ervan wordt opgeschort als het mandje eruit wordt gehaald. Als u het mandje binnen 3 minuten terug plaatst, gaat het warmhouden verder met de behouden tijdstellingen. Als het mandje niet binnen 3 minuten wordt teruggeplaatst, stopt het warmhouden en keert de airfryer terug naar het startscherm van het bijbehorende recept.
WAARSCHUWING: Wanneer het warmhouden is ingeschakeld en de kooktemperatuur is ingesteld op ≥ 80 °C, wordt het warmhouden uitgevoerd nadat het koken is voltooid. Anders zal de airfryer het koken direct stoppen door naar het scherm met koken voltooid te gaan.

6. Koken pauzeren/annuleren

- Wanneer de airfryer zich in de kookmodus bevindt, druk op de bedieningsknop om het koken te pauzeren. Wanneer de airfryer aan het koken is of gepauzeerd is, houd de bedieningsknop één seconde ingedrukt om naar het scherm voor het annuleren van het koken te gaan. Selecteer Ja om het koken te annuleren en ga naar het scherm voor de handmatige modus.

WAARSCHUWING: Tijdens het koken, kunt u de bedieningsknop draaien om de temperatuur- en tijdparameters aan te passen. De bijbehorende nummers knippen tijdens het aanpassen. Wanneer deze zijn aangepast, druk op de bedieningsknop om de nieuwe parameters te bevestigen.

7. Modus voor Cloud-recepten

- Als u een cloud-recept selecteert en uitvoert met de Mi Home/Xiaomi Home-app, kookt de airfryer automatisch volgens het recept. Na het koken gaat de airfryer naar het scherm voor de handmatige modus.

Opmerkingen: 1. Bij het uitvoeren van cloud-recepten kunt u de planningsfunctie selecteren.

2. In de volgende situaties kunt u geen cloud-recepten uitvoeren:

- 1) De airfryer of het scherm ervan is uitgeschakeld.
- 2) Er is geen Wifi-verbinding.
- 3) De airfryer is aan het koken, warmhouden of staat in de geplande modus.
- 4) Het mandje is eruit gehaald.

8. Foutmelding

- Wanneer de airfryer een fout detecteert, geeft het scherm "E1" of "E2" weer en laat de airfryer drie korte pieptonen horen.

Schoonmaken & onderhoud

Trek het netsnoer uit het stopcontact vóór het schoonmaken en onderhouden van de airfryer, en wacht tot deze is afgekoeld tot een veilige temperatuur alvorens verder gaat. Verwijder het mandje uit de airfryer wanneer u de airfryer schoonmaakt.

- **Oppervlak airfryer:**
Het oppervlak van de airfryer kan worden afgeveegd met een droge, zachte doek of een spons die is bevochtigd met een neutraal schoonmaakmiddel.
- **Uitholling:**
Om vlekken aan de binnenkant van de airfryer te verwijderen, breng een geschikte hoeveelheid afwasmiddel verdund in heet water op het oppervlak aan en laat het gedurende 10 minuten inwerken, gebruik vervolgens een zachte spons die met water is bevochtigd om de afwasmiddelresten weg te vegen.
- **Mandje:**
Maak de airfryer na elk gebruik schoon. Het mandje van de airfryer is gecoat, gebruik daarom geen staalwol of andere schurende schoonmaakmiddelen om deze schoon te maken, omdat deze de coating kunnen beschadigen.
- **Bakplaat en grill:**
U kunt een zachte, katoenen doek of spons gebruiken die is bevochtigd met een neutraal schoonmaakmiddel om deze schoon te vegen en vervolgens met water bevochtigen om de afwasmiddelresten te verwijderen.

Opmerking: De bakplaat en grill kunnen gescheiden en in de vaatwasser worden geplaatst om te worden schoongemaakt; het mandje kan afgewassen worden in water, maar kan niet schoongemaakt worden in de vaatwasser; de airfryer mag echter niet afgewassen worden in water noch schoongemaakt worden in de vaatwasser.

Voorzorgsmaatregelen voor het schoonmaken

1. Trek na het gebruik van de airfryer de stekker op tijd uit het stopcontact en plaats de airfryer niet in de buurt van een warmtebron en dompel deze niet onder in water. Plaats de stekker niet direct op de airfryer om te voorkomen dat de stekker het oppervlak bekrast.
2. Het reinigen en onderhouden mag alleen gedaan worden nadat de airfryer is afgekoeld.
3. Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen of reinigingsmiddelen.

Opmerking: Het regelmatig schoonmaken en onderhouden van de airfryer zal de levensduur helpen verlengen.

Onderhoudstips


- Alleen professioneel opgeleide en gekwalificeerde monteurs mogen de airfryer repareren.
- Anderen mogen de airfryer niet repareren zonder toestemming om ernstige gevolgen te voorkomen.
- Als de airfryer niet normaal functioneert, raadpleeg Problemen oplossen voordat u contact opneemt met het after-sales serviceteam.
- Als het probleem niet kan worden opgelost, trek het snoer uit het stopcontact en neem contact op met het after-sales serviceteam.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De airfryer werkt niet.	De airfryer is niet aangesloten op een stopcontact.	Steek het snoer in een geaard stopcontact.
	Het mandje is niet op zijn plaatst geduwd.	Haal het mandje eruit en duw het terug op zijn plaats.
Op het scherm staat E1.	De sensor heeft een kapot circuit.	Neem contact op met het after-sales serviceteam.
Op het scherm staat E2.	De sensor heeft kortsluiting.	Neem contact op met het after-sales serviceteam.
De ventilator draait niet.	Het ventilatorblad zit vast.	Neem contact op met het after-sales serviceteam.
	De motor is beschadigd of andere onderdelen hebben een kapot circuit.	Neem contact op met het after-sales serviceteam.
Er komt witte rook uit.	Vette ingrediënten koken.	Als u ingrediënten bakt die meer vet bevatten, zal er veel rook zijn, wat normaal is.
	De airfryer bevat nog vetresten van het vorige kookprogramma.	Zorg ervoor dat u de airfryer na elk kookprogramma schoonmaakt.
Kan het mandje niet soepel in de airfryer plaatsen.	Er zitten te veel ingrediënten in het mandje.	De ingrediënten in het mandje mogen de maximummarkering niet overschrijden.
	Het mandje is niet goed geplaatst.	Plaats het mandje op de juiste manier.
De planningsfunctie werkt niet zoals gevraagd.	De geplande tijd is te kort.	De geplande tijd moet langer zijn dan de kooktijd.
	De geplande tijd is niet opgeslagen.	De geplande tijd wordt opgeslagen en uitgevoerd door op de bedieningsknop te drukken.
Er kan geen verbinding met Wifi worden gemaakt.	De Mi Home/Xiaomi Home-app is niet de nieuwste versie.	Update de Mi Home/Xiaomi Home-app naar de nieuwste versie.
	Het wifi-sigitaal is zwak.	Ga naar een locatie waar het sigitaal sterk genoeg is.
De airfryer kan niet verbonden worden.	Er kan geen verbinding met Wifi gemaakt worden.	Controleer of de Wifi normaal is verbonden of reset de Wifi om opnieuw verbinding te maken.

Elektrisch schema

- ① LCD-scherm
- ② Veiligheidsschakelaar
- ③ Bedieningspaneel
- ④ Verwarmingselement
- ⑤ Zekering
- ⑥ Motor
- ⑦ Zekering
- ⑧ Stroomcircuit



Specificaties

Naam: Oven (Airfryer)	Capaciteit: 6,5 L	Kleur: Zwart
Model: MAF10	Nominale frequentie: 50–60 Hz	Nettogewicht: 5,4 kg
Nominaal vermogen: 1800 W	Nominale spanning: 220–240 V~	Brutogewicht: 6,5 kg
Maximaal uitgangsvermogen: <20 dBm	Pakketafmetingen: 425 × 330 × 355 mm	
Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot 40 °C	Bedrijfsfrequentie: 2412–2472 MHz	
Draadloze connectiviteit: wifi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		

Onder normale omstandigheden moet er een minimumafstand van 20 cm tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker aangehouden worden.

CE Hierbij verklaart Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd., dat de radioapparatuur type Oven (Airfryer) MAF10 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Een uitgebreide elektronische handleiding vindt u op www.mi.com/global/service/userguide



Alle producten met dit symbool behoren tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in Richtlijn 2012/19/EU) en mogen niet worden vermengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een van de aangewezen inzamelpunten voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ingericht door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling zal mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de algemene gezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locaties en de voorwaarden van deze inzamelpunten.

Geproduceerd voor: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Geproduceerd door: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
(een Mi Ecosystem-bedrijf)
Adres: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone,
Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
Ga voor meer informatie naar www.mi.com

Versie gebruikershandleiding: V1.0

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.
شكراً لكم على اختياركم مقلاة Xiaomi الهوائية الذكية 6.5 لتر. هذا المنتج للاستخدام المنزلي فقط.
الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم في دليل المستخدم يتم توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف الفعلية بسبب إدخال تحسينات على المنتج.

تعليمات الأمان


- يمكن للأطفال في سن 8 أعوام أو أكبر استخدام هذا الجهاز، وكذلك من يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات بشرط الإشراف عليهم أو تزويدهم بتعليمات الاستخدام الآمن للجهاز وفهمهم للمخاطر المتعلقة به. يجب وضع الجهاز بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. ولا يجوز للأطفال القيام بأعمال التنظيف أو الصيانة ما لم يكونوا أكبر من 8 سنوات وتحت إشراف شخص بالغ.
- يرجى إبقاء المقلاة الهوائية وسلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال ما دون 8 سنوات.
- للاستخدام المنزلي فقط.
- إذا كان سلك الطاقة تالفاً أو مُعطلاً، فيجب استبداله بواسطة الجهة المصنّعة أو قسم خدمة ما بعد البيع لتجنب مخاطر السلامة.
- قد ترتفع درجة حرارة السطح القابل للمس أثناء عمل المقلاة الهوائية.
- سيسخن السطح بسهولة أثناء استخدام المقلاة الهوائية.
- لا ينبغي استخدام المقلاة الهوائية عبر مؤقت خارجي أو جهاز تحكم مستقل عن بعد.
- لا تقم بسد مدخل الهواء والمخارج الخاصة بالمقلاة الهوائية، ولا فتحات توزيع الحرارة أثناء الاستخدام لتجنب التأثير على عملية توزيع الحرارة العادية الخاصة بها.
- لا يجوز لأي فنيين غير مدربين تدريباً مهنياً تعديل تمديدات الأسلاك الداخلية لـ المقلاة الهوائية.
- لا تستخدم الفحم أو أي مصادر وقود مماثلة أخرى لتسخين السلة أو طبق القلي أو الشواية.
- لا تضع السلة على أي مصادر حرارة أخرى، مثل الطباخ الحثي أو فرن الغاز.
- لا تقم بتوصيل أو فصل سلك الطاقة بيدتين مبتلتين لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية.
- لا تستخدم سلك الطاقة إذا كان اتصاله مرتخياً أو ضعيف الاتصال.
- لا تدع سلك الطاقة يمر من خلال أشياء حادة لتجنب إتلاف سلك الطاقة.
- لا تستخدم المقلاة الهوائية لتخزين أي مواد، ولا سيما تلك المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار أو التآكل.
- لا تفرط في الضغط على سلك الطاقة أو ثنيه أو لفه أو وضع أشياء ثقيلة عليه لمنع تعرية لفائف سلك الطاقة أو قطعها.
- توقف عن استخدام المقلاة الهوائية على الفور وقم ب فصلها من مصدر الطاقة إذا كانت لا تعمل بصورة طبيعية أو كان بها أعطال.

- لا يمكن بدء تشغيل المقلاة الهوائية بدون وجود السلة في مكانها.
- لا تلمس السلة مباشرة بيديك أثناء الاستخدام أو بعد الاستخدام مباشرة لتجنب التعرض للحرق.
- لا تسمح للأطفال بالاقتراب من كيس التغليف والعبوة أو اللعب بها لتجنب وقوع حوادث الاختناق.
- لا تستخدم أي أواني بلاستيكية أو مواد لف ورقية عادية للف الأطعمة للطهي.
- لا تسقط المقلاة الهوائية أو تصدمها بأشياء صلبة لتجنب وقوع ضرر أو عطل.
- لا تدخل أي مسامير أو أسلاك أو أشياء أخرى في أي من فتحات المقلاة الهوائية لتجنب التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة.
- لا تستخدم أي ملحقات غير موصى بها من الشركة المصنعة.
- نطاق ارتفاع التشغيل العادي لهذا المنتج هو 0-2000 متر.
- أثناء الاستخدام، حافظ على مسافة 30 سم أو أكثر بين مخرج الهواء والأجهزة الأخرى.
- لا تحرك أو تهز المقلاة الهوائية أثناء الاستخدام.
- لا تدخل أي أشياء غريبة في مفتاح الأمان لتجنب التعرض لأي خطر.
- عند وضع المقلاة الهوائية في خزانة المطبخ وما إلى ذلك، يرجى التأكد من تهويتها بصورة جيدة.
- يرجى التأكد من فصل المقلاة الهوائية من التيار الكهربائي قبل تنظيفها أو صيانتها.
- يجب استخدام المنتج على سطح مستوي ومقاوم للحرارة لتجنب إتلاف المنتج أو وقوع حوادث.
- تأكد أن أجزاء السيلكون لـ المقلاة الهوائية لا تلامس الإيثانول أو المحاليل التي تحتوي على نسبة أكثر من 50% كحول.
- تأكد من أن المأخذ الكهربائي المقلاة الهوائية موصول ومؤرض بصورة صحيحة لتجنب التعرض لصدمة كهربائية أو المخاطر الأخرى المتعلقة بالسلامة.

تنبيه: أسطح ساخنة.




نظرة عامة حول المنتج



ملاحظات: 1. مطاط السيلكون المستخدم في طبق القلي مصنوع من مواد غير ضارة بالطعام مقاومة لدرجة الحرارة العالية لمنع تسبب حواف طبق القلي بخدش طلاء السلة وتحسين ثبات طبق القلي. لا تتم بإزالة مطاط السيلكون من طبق القلي.
2. المكونات التي تكون بالغة الصغر غير ملائمة للاستخدام على الشواية. يرجى التأكد من عدم وقوع تلك المكونات من خلال فجوات الشبكة.

مقبض التحكم



ما طريقة الاستخدام

قم بتوصيل سلك الطاقة واضغط على زر الطاقة لتشغيل المقلاة الهوائية.

ملاحظات: 1. عند تشغيل المقلاة الهوائية للمرة الأولى، اضغط على زر الطاقة واذهب إلى شاشة اختيار اللغة، وقم بتدوير مقبض التحكم إلى اللغة المطلوبة، ثم اضغط على مقبض التحكم لتأكيد الاختيار.

2. قد تبعث رائحة طفيفة من المقلاة الهوائية عند استخدامها لأول مرة. يُنصح بتشغيل المقلاة الهوائية بسلة فارغة على درجة الحرارة القصوى (220 درجة مئوية) لمدة خمس دقائق لإزالة الرائحة. قد تبعث كمية صغيرة من الدخان الأبيض أو رائحة خلال تشغيل المقلاة الهوائية بسلة فارغة، وهذا أمر طبيعي.

التشغيل

قم بتوصيل سلك الطاقة واضغط على زر الطاقة لتشغيل المقلاة الهوائية.

إيقاف التشغيل

اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل المقلاة الهوائية، بصرف النظر الحالة التي تكون عليها.



ضبط تكوين شبكة Wi-Fi

- إعادة ضبط إعدادات Wi-Fi:

اضغط على مقبض التحكم للدخول إلى "Reset Wi-Fi" عندما تكون في شاشة "Wi-Fi"، ثم اضغط على مقبض التحكم لاختيار Yes لإعادة ضبط Wi-Fi، أو قم بتدوير مقبض التحكم لاختيار No للترجع عن إعادة ضبط Wi-Fi.

- تمكين/ تعطيل Wi-Fi:

اضغط على مقبض التحكم للدخول إلى "Enable/Disable Wi-Fi?" عندما تكون في شاشة "Wi-Fi"، ثم اضغط على مقبض التحكم لاختيار Yes لتمكين أو تعطيل Wi-Fi، أو قم بتدوير مقبض التحكم لاختيار No للترجع عن التغيير.

مؤشر حالة Wi-Fi

📶	📶	📶	📶
جار التحديث...	تم الاتصال بنجاح	إعادة الاتصال بعد فصل الاتصال...	بانتظار الاتصال السريع...
مؤشر Wi-Fi يومض بسرعة	مؤشر Wi-Fi يبقى مضيئاً	مؤشر Wi-Fi يومض بسرعة	مؤشر Wi-Fi يومض ببطء

ملاحظة: إذا لم تتصل المقلاة الهوائية بشبكة Wi-Fi لمدة 30 دقيقة، سيتوقف مؤشر Wi-Fi.

تحديث البرنامج الثابت

عند تحديث البرنامج الثابت من خلال تطبيق Mi Home/Xiaomi Home، ستعرض الشاشة أن التحديث قيد التقدم، وسوف تعيد المقلاة الهوائية التشغيل تلقائياً بعد اكتمال عملية التحديث.

ملاحظة: سيكون تطبيق Mi Home/Xiaomi Home قادراً على تحديث البرنامج الثابت ما لم تكن المقلاة الهوائية أو الشاشة الخاصة بها متوقفة عن التشغيل، أو كان اتصال Wi-Fi مفصولاً. لا يمكن القيام بأي عمليات أخرى أثناء تقدم تحديث البرنامج الثابت.

الاتصال بتطبيق Mi Home/Xiaomi Home

يعمل هذا المنتج مع تطبيق Mi Home/Xiaomi Home*. تحكم في جهازك من خلال تطبيق Mi Home/Xiaomi Home.

- امسح كود QR ضوئياً لتنزيل التطبيق وتثبيته. سيتم توجيهك إلى صفحة إعداد الاتصال في حال كان التطبيق مثبتاً بالفعل، أو ابحث عن "Mi Home/Xiaomi Home" في متجر التطبيقات لتنزيله وتثبيته.

- افتح تطبيق Mi Home/Xiaomi Home، واضغط على "+" في أعلى الجانب الأيسر، ثم اتبع المطالبات لإضافة جهازك. * تتم الإشارة إلى التطبيق باسم تطبيق Xiaomi Home في أوروبا (عدا روسيا)، وبنغلي التعامل مع اسم التطبيق الذي يظهر على جهازك على أنه افتراضي. ملاحظة: ربما قد تم تحديث إصدار التطبيق، الرجاء اتباع التعليمات استناداً إلى إصدار التطبيق الحالي.



67CE8213

الطهي

التحضيرات

يمكن تبديل المكونات حسب الذوق قبل الطهي.

بدء تشغيل برنامج طهي

1. ضع المقلاة الهوائية على سطح ثابت ومستوى وتأكد من وجود دوران للهواء حول المقلاة الهوائية.

2. ضع طبق القلي في السلة وأضف المكونات واحداً تلو الآخر. إذا كان هناك المزيد من المكونات، استخدم الشواية لوضعها في طبقات.

ملاحظة: تكديس المكونات بدون استخدام الشواية من شأنه أن يؤثر على الطهي.

3. عند دفع السلة بالكامل داخل المقلاة الهوائية، قم بتدوير مقبض التحكم والضغط عليه لتحديد الوضع اليدوي أو الوصفة المحددة مسبقاً (زبادي، أجنحة دجاج، بطاطس مقلية، إلخ)، ثم تدوير مقبض التحكم والضغط عليه لتحديد الوضع (شواية مقرمشة/ إزالة الدهون، مدعوم ببعض الوصفات)، كمية المكونات (طبقة واحدة / طبقة مزدوجة)، درجة الحرارة والوقت، واضغط على مقبض التحكم لبدء برنامج الطهي والعد التنازلي لوقت الطهي. في حالة برنامج الطهي المجدول، ستقوم المقلاة الهوائية بالبدء في الطهي تلقائياً في الوقت المناسب لضمان الانتهاء من الطهي في الوقت المحدد.

ملاحظات:

1. يمكن تعديل وقت الطهي ودرجة الحرارة بتدوير مقبض التحكم أثناء الطهي، باستثناء حالة طهي الزبادي. عند الطهي في وضع إزالة الدهون، يمكنك فقط تعديل وقت الطهي، وليس درجة حرارة الطهي.

2. بمجرد تدوير مقبض التحكم لتعديل وقت الطهي أو درجة الحرارة، عليك الضغط على مقبض التحكم للتأكيد، وإلا فإن المقلاة الهوائية ستواصل الطهي حسب الإعدادات الأصلية بعد خمس ثوانٍ.

3. لا يمكنك تغيير الوصفة أثناء الطهي.

4. لا حاجة لتقليب المكونات أثناء الطهي (ما لم تكن تطهوا بطاطس مقلية). عندما تختار أكثر من 500 غم من البطاطس المقلية، سيظهر تنبيه لتقليب المكونات في منتصف عملية الطهي. اتبع التنبيه لسحب السلة وتقليب المكونات، ثم ضع السلة بالكامل داخل المقلاة الهوائية واضغط على مقبض التحكم لمواصلة الطهي.

5. ستصدر المقلاة الهوائية صوت تنبيه وستظهر على الشاشة عبارة "Completed" للإشارة إلى اكتمال برنامج الطهي (في بعض الوصفات، ستدخل المقلاة الهوائية في حالة الاحتفاظ بالدفء وستعرض "Keeping warm..."). أخرج السلة بحذر واستخدم الملاقط لإخراج الطعام.

تنبيه: عند اكتمال الطهي، تكون السلة ساخنة للغاية، لذلك لا تلمسها لتجنب التعرض للحرق.

عمليات أخرى

1. إعدادات اللغة

- شغّل المقلاة الهوائية، اذهب إلى الإعدادات، واضغط على مقبض التحكم للدخول إلى شاشة اختيار اللغة.
- قم بتدوير مقبض التحكم إلى اللغة المطلوبة واضغط عليها للتأكيد.

2. الوضع اليدوي

- عندما تكون المقلاة الهوائية في وضع التشغيل، اضغط على مقبض التحكم لدخول الوضع اليدوي، ثم قم بتدوير مقبض التحكم إلى درجة حرارة الطهي المطلوبة، واضغط على مقبض التحكم لضبط الوقت وقم بتدوير مقبض التحكم إلى وقت الطهي المطلوب، وأخيراً اضغط على مقبض التحكم لبدء برنامج الطهي اليدوي.

3. تعديل درجة الحرارة/ الوقت

- يمكن تعديل درجة الحرارة بين 40 درجة مئوية و220 درجة مئوية. ويمكن تعديل الوقت بين 0-24 ساعة.
- عندما تقوم بضبط وقت الطهي أو وقت الانتهاء المجدول، يرجى الانتباه إلى سرعة تدوير مقبض التحكم. عندما يكون نطاق الوقت المعدل ≤ 60 دقيقة، سيؤدي تدوير مقبض التحكم بسرعة إلى ضبط الوقت بمقدار 60 دقيقة، في حين سيؤدي تدوير مقبض التحكم ببطء إلى ضبط الوقت بمقدار 1 دقيقة. عندما يكون نطاق الوقت المعدل > 60 دقيقة، سيؤدي تدوير مقبض التحكم بسرعة إلى ضبط الوقت بمقدار 10 دقائق، في حين سيؤدي تدوير مقبض التحكم ببطء إلى ضبط الوقت بمقدار 1 دقيقة.
- يتم ضبط درجة الحرارة للطهي بمقدار 5 درجات مئوية لكل دورة في مقبض التحكم.
- إذا قمت بضبط أو تعديل معلمات الوقت في برنامج طهي الوصفة، عندما تكون درجة حرارة الطهي بين 80 درجة مئوية و220 درجة مئوية، يكون وقت الطهي القابل للتعديل ≥ 1 ساعة؛ عندما تكون درجة حرارة الطهي > 80 درجة مئوية، يكون وقت الطهي القابل للتعديل ≥ 24 ساعة.

4. الطهي المجدول

- اضغط على مقبض التحكم لتحديد وظيفة الجدول الزمني، ثم قم بتدوير مقبض التحكم لتحديد الوصفة المجدولة، ثم اضبط وقت الطهي والوقت المجدول. ستبدأ المقلاة الهوائية تلقائياً في الطهي في الوقت المناسب للتأكد من إنهاء الطهي في الوقت المجدول، ثم تدخل وضع الاحتفاظ بالدفء أو تنتهي من الطهي عند الاكتمال.

ملاحظات:

1. ينبغي أن يكون الوقت المجدول أطول من وقت الطهي ولكن أقل من 24 ساعة.
2. الوقت المجدول هنا هو وقت الانتهاء المجدول. على سبيل المثال، عندما تعرض الشاشة 02:40، فهذا يعني أن الطهي سينتهي خلال 2 ساعات و 40 دقيقة.
3. وظيفة الجدول الزمني غير مدعومة في أوضاع الزبادي والفاكهة المجففة وإذابة الجليد.

5. وظيفة الاحتفاظ بالدفع

- تكون وظيفة الاحتفاظ بالدفع مفعلة بالإعدادات الافتراضية. يمكنك تعطيلها في الإعدادات.
- وقت الاحتفاظ بالدفع هو 30 دقيقة، بينما تكون درجة حرارة الاحتفاظ بالدفع 80 درجة مئوية. سيتم إيقاف وظيفة الاحتفاظ بالدفع وتوقيتها إذا تم سحب السلة. إذا وضعت السلة مرة أخرى خلال 3 دقائق، فسيستمر الاحتفاظ بالدفع عند الإعدادات المحفوظة. إذا لم يتم وضع السلة مرة أخرى خلال 3 دقائق، فسيتم إنهاء الاحتفاظ بالدفع، وستعود المقلاة الهوائية إلى الشاشة الرئيسية للوصفة المعنية.
- تنبيه: عندما تكون وظيفة الاحتفاظ بالدفع مفعلة وتم تعيين درجة الحرارة على ≤ 80 درجة مئوية، فسيتم تنفيذ عملية الاحتفاظ بالدفع بعد انتهاء الطهي. وإلا، ستنتهي المقلاة الهوائية مباشرة الطهي بالدخول في شاشة اكتمل الطهي.

6. الإيقاف المؤقت/ إلغاء الطهي

- عندما تكون المقلاة الهوائية في وضع الطهي، اضغط على مقبض التحكم لإيقاف الطهي مؤقتاً. عندما تكون المقلاة الهوائية في حالة الطهي أو متوقفة مؤقتاً، اضغط مع الاستمرار على مقبض التحكم لمدة ثانية واحدة للدخول في شاشة إلغاء الطهي. حدد Yes لإلغاء الطهي والدخول في شاشة الوضع اليدوي.
- تنبيه: خلال الطهي، يمكنك تدوير مقبض التحكم لضبط معلمات درجة الحرارة ومعلومات الوقت. ستومض الأرقام المقابلة خلال التعديل. بمجرد الانتهاء من الضبط، اضغط على مقبض التحكم لتأكيد المعلمات الجديدة.

7. وضع الوصفة على السحابة

- إذا قمت بتحديد وتنفيذ وصفة على السحابة باستخدام تطبيق Mi Home/Xiaomi Home ، ستقوم المقلاة الهوائية بالطهي تلقائياً وفقاً للوصفة. بعد الطهي، ستدخل المقلاة الهوائية إلى شاشة الوضع اليدوي.
- ملاحظات: 1. عند تنفيذ وصفات على السحابة، يمكنك تحديد وظيفة الجدول الزمني.
- 2. لا يمكنك تنفيذ وصفات على السحابة في الحالات التالية:
1) المقلاة الهوائية أو الشاشة الخاصة بها متوقفة عن التشغيل . 2) عدم توفر اتصال Wi-Fi (3) المقلاة الهوائية في حالة طهي أو الاحتفاظ بالدفع أو في الوضع المجدول . 4) السلة مسحوبة لخارج.

8. رسالة الخطأ

- عندما تكتشف المقلاة الهوائية وجود خطأ، ستعرض الشاشة "E1" أو "E2"، وستصدر المقلاة الهوائية ثلاثة أصوات تنبيه قصيرة.

التنظيف والصيانة

قم بفصل سلك الطاقة قبل تنظيف وصيانة المقلاة الهوائية، وانتظر حتى تبرد إلى درجة حرارة آمنة قبل المتابعة. يرجى إخراج السلة من المقلاة الهوائية عند تنظيف المقلاة الهوائية.

- سطح المقلاة الهوائية:

يمكن مسح سطح المقلاة الهوائية بقطعة قماش جافة وناعمة أو إسفنجة مرطبة بمنظف محايد.

- التجويف:

لإزالة اللطخات من الجزء الداخلي ل المقلاة الهوائية، استخدم كمية ملائمة من المنظف المخفف في ماء ساخن على سطحها واتركه راکداً لمدة عشر دقائق تقريباً، ثم استخدم اسفنجة ناعمة مبللة بالماء لمسح بقايا المنظف.

- السلة:

نظف المقلاة الهوائية بعد كل استخدام. السلة الخاصة بالمقلاة الهوائية مطيئة، لذلك لا تستخدم الخريس أو مواد تنظيف كاشطة أخرى لتنظيفها لأن ذلك ربما يتلف الطلاء.

- طبق القلي والشواية:

يمكنك استخدام قطعة قماش قطنية ناعمة أو إسفنجة مبللة بمنظف محايد لمسحها وتنظيفها، بللها بالماء لمسح بقايا المنظف.

ملاحظة: يمكن فصل طبق القلي والشواية ووضعها في غسالة الأطباق لتنظيفها! يمكن غسل السلة في الماء، ويمكن تنظيفها في غسالة الأطباق؛ إلا أنه لا يمكن غسل المقلاة الهوائية بالماء ولا تنظيفها في غسالة الأطباق.

التدابير الوقائية للتنظيف

1. بعد استخدام المقلاة الهوائية، يرجى فصل قابس الطاقة في الوقت المناسب وعدم وضع المقلاة الهوائية بالقرب من مصدر للنار أو غمرها في الماء. لا تضع قابس الطاقة مباشرة على المقلاة الهوائية لتفادي خدش القابس لسطحها.
 2. لا تقم بتنظيف أو صيانة المقلاة الهوائية إلا بعد أن تبرد.
 3. لا تستخدم مواد تنظيف أو منظفات مسببة للتآكل أو كاشطة.
- ملاحظة: التنظيف والصيانة الدورية ل المقلاة الهوائية من شأنه أن يساعد في تمديد عمر خدمتها.


نصائح الصيانة

- يمكن للفنيين المؤهلين والمدربين تدريباً مهنياً تصليح المقلاة الهوائية.
- ولا ينبغي لغيرهم تصليح المقلاة الهوائية دون إذن لتجنب وقوع أي عواقب خطيرة.
- عندما لا تعمل المقلاة الهوائية بصورة طبيعية، يرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها قبل الاتصال بفريق خدمة ما بعد البيع.
- في حال عدم التمكن من حل المشكلة، يرجى فصل سلك الطاقة وفصلها والاتصال بفريق خدمة ما بعد البيع.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
المقلاة الهوائية لا تعمل.	المقلاة الهوائية غير موصولة بمصدر للطاقة.	قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ كهربائي مؤرض.
	لم يتم دفع السلة في مكانها.	اسحب السلة للخارج وادفعها مجدداً في مكانها.
الشاشة تعرض E1.	هناك دائرة مفصولة في المستشعر.	تواصل مع فريق خدمة ما بعد البيع.
الشاشة تعرض E2.	هناك ماس كهربائي في المستشعر.	تواصل مع فريق خدمة ما بعد البيع.
	نصلة المروحة عالقة.	تواصل مع فريق خدمة ما بعد البيع.
المروحة لا تدور.	المحرك تالف أو هناك دائرة مفصولة في مكونات أخرى.	تواصل مع فريق خدمة ما بعد البيع.
	طهي مكونات دهنية.	عندما تطهوا مكونات تحتوي على دهون كثيرة، سيكون هناك الكثير من الدخان وهذا طبيعي.
دخان أبيض يخرج.	لا يزال هناك بقايا دهون في المقلاة الهوائية من برنامج الطهي السابق.	تأكد من تنظيف المقلاة الهوائية بعد كل برنامج طهي.
	هناك الكثير من المكونات في السلة.	لا يمكن أن تتجاوز المكونات في السلة علامة الحد الأقصى.
	لم يتم إدخال السلة بصورة صحيحة.	أدخل السلة بصورة صحيحة.
	الوقت المجدول قصير للغاية.	ينبغي أن يكون الوقت المجدول أطول من وقت الطهي.
وظيفة الجدول الزمني لا تعمل كما هو مطلوب.	لم يتم حفظ الوقت المجدول.	ينبغي حفظ الوقت المجدول وتنفيذه بالضغط على مقبض التحكم.
	إصدار تطبيق Mi Home/Xiaomi Home ليس أحدث إصدار.	قم بتحديث تطبيق Mi Home/Xiaomi Home إلى أحدث إصدار.
	إشارة الـ Wi-Fi ضعيفة.	انقلها إلى موقع تكون فيه الإشارة قوية كفاية.
	لا يمكن الاتصال بشبكة Wi-Fi.	تحقق ما إذا كانت شبكة Wi-Fi متصلة بصورة طبيعية أو أعد ضبط شبكة Wi-Fi لإعادة الاتصال.
	لا يمكن الاتصال بشبكة Wi-Fi.	لا يمكن الاتصال بشبكة Wi-Fi.

الرسم البياني الكهربائي



- | | | | |
|-------------|---|--------------|---|
| المحرك | 6 | شاشة LCD | 1 |
| المنصهر | 7 | مفتاح الأمان | 2 |
| لوحة الطاقة | 8 | لوحة التحكم | 3 |
| | | عنصر التسخين | 4 |
| | | المنصهر | 5 |

المواصفات

اللون: أسود	السعة: 6.5 لتر	الاسم: فرن (المقلاة الهوائية)
الوزن الصافي: 5.4 كلغم	التردد المقدر: 50-60 هرتز	الطراز: MAF10
الوزن الإجمالي: 6.5 كلغم	الجهد المقدر: 220-240 فولت~	الطاقة المقدر: 1800 واط
	أبعاد العلبه: 425 × 330 × 355 ملم	الحد الأقصى لطاقة الخرج: > 20 ديسيبل مللي واط
	تردد التشغيل: 2412-2472 ميغاهيرتز	درجة حرارة التشغيل: -10 إلى 40 درجة مئوية
		الاتصال اللاسلكي: 2.4 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n جيجاهرتز

أثناء الاستخدام العادي، يجب إبقاء هذا الجهاز على مسافة فاصلة لا تقل عن 20 سم بين الهوائي وجسم المستخدم.

بموجب هذا، تعلن شركة Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. أن نوع جهاز الراديو فرن (المقلاة الهوائية) MAF10 يتوافق مع توجيه 2014/53/EU. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
 للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى www.mi.com/global/service/userguide



جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وفقاً لتوجيه (2012/19/EU) التي لا ينبغي أن تختلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وأحكام نقاط التجميع هذه.



تم التصنيع لصالح شركة: Xiaomi Communications Co., Ltd.
 الجهة المصنعة: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
 (أحدى شركات نظام Mi الشامل)
 العنوان: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou, Zhejiang, China
 Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China
 لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com

إصدار دليل المستخدم: الإصدار 1.0



